


مولانا سید محمد راجح حسني ندوی

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ  
صَلَوةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

# نقوشِ سیرت



مجلس تحقیقا و نشر تیارا سلام

# نقوشِ سیرت

جدید ایڈیشن  
تھا ضافوں کے ساتھ

مولانا سید محمد راجح حسني ندوی

ناشر

مجلس تحقیقات و نشر بیان اسلام

پوسٹ نمبر 119 ندوۃ اعلماں الحضور

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ)

## جدید ایڈیشن

۱۴۳۷ھ - ۲۰۱۵ء

نام کتاب	:	نقوش سیرت
نام مصنف	:	مولانا سید محمد رابع حسینی ندوی
صفحات	:	۲۰۸
تعداد اشاعت	:	۱۰۰۰
کتابت	:	ظہیر احمد کا کورڈی
طبعاً	:	کا کوری آفسیٹ پر لیں، لکھنؤ
قیمت	:	

طابع و ناشر

## مجلس تحقیقات و نشریات اسلام

پوسٹ بکس نمبر ۱۱۹، ندوۃ العلماء، لکھنؤ

فون نمبر: 0522-2741539، فیکس نمبر: 0522-2740806

## فہرست عنوانوں

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۱	عرض ناشر	۵
۲	نگاہ اولیں — مولا ناصر محمد رضوان القاسمی مرحوم	۷
۳	نقوش سیرت - ایک مطالعہ — پروفیسر وصی احمد صدیقی	۱۵
۴	پیش لفظ — مولا ناصر محمد رافع حسینی ندوی	۲۲
۵	سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۲۷
۶	حضرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تکمیل ایمان کے لئے لازمی	۳۳
۷	محبت رسول ﷺ کا تقاضا	۵۰
۸	صفاتِ نبوی ﷺ ہر خاص و عام کے لئے قابل عمل	۵۷
۹	تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع کامل	۶۱
۱۰	اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا فرض	۶۳
۱۱	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی	۶۸
۱۲	سیرتِ نبوی ﷺ میں اعتدال و توازن	۸۰
۱۳	رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی اور رحمۃ للعالمین	۸۳
۱۴	ساری انسانیت کے لئے نعمت اور رحمت	۸۹
۱۵	نبوتِ محمدی کی تکمیل و اتمام	۹۲
۱۶	دعوت دین اور اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	۱۰۰

۱۰۷	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت و تبلیغ اور عصری تحریکات	۱۷
۱۱۸	سیرت نبوی میں دعوت و سیاست کا امترانج	۱۸
۱۲۳	عہد حاضر میں تعلیمات نبوی کی ضرورت	۱۹
۱۲۸	معاشرہ کی اصلاح میں حدیث و سنت نبوی سے رہنمائی	۲۰
۱۳۸	سیرت و اخلاق کی تعمیر میں حدیث کا کردار	۲۱
۱۴۲	تریبیت و سلوک میں رعایت اور گفتگو میں ادبی حسن	۲۲
۱۴۸	سیرت نبوی ﷺ اور ادب	۲۳
۱۶۰	کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادبی بلاغت کا شاہکار	۲۴
۱۶۷	کلام نبوی میں دعا اور مناجات کے شہ پارے	۲۵
۱۸۷	ہجرت نبویؐ	۲۶
۱۹۲	ماہ سعادت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم	۲۷
۱۹۸	رسول ﷺ کی محبت و تابعداری کے اثرات	۲۸
۲۰۳	انسانیت کی عید	۲۹
۲۰۸	درود شریف	۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## عرض ناشر

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على  
سيد المرسلين وختام النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  
اجمعين وبعد!

سیرت کے مختلف پہلوؤں پر حضرت مولانا سید محمد رائع حسني ندوی صاحب  
دامت برکاتہم نے الگ الگ موقعوں پر مختلف النوع مضامین تحریر فرمائے تھے،  
”نقوش سیرت“ کے نام سے یہ مجموعہ مضامین سیرت حیدر آباد کے اشاعتی ادارے  
مکتبہ الحسنسی سے ربیع الاول ۱۳۲۲ھ میں شائع ہوا، جس پر تعلیم و دعوت سے جڑی  
شخصیت مولانا محمد رضوان القاسمی ناظم و بانی دارالعلوم سبیل السلام حیدر آباد نے مقدمہ  
تحریر فرمایا تھا۔ (۱)

یہ مجموعہ مضامین علمی و دینی حلقوں میں مقبول ہوا، اور جلد ہی دوسرے ایڈیشن  
کے شائع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی یہ سعادت مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کو

(۱) افسوس اب جب کہ یہ کتاب لکھنؤ کے اشاعتی ادارے مجلس تحقیقات و نشریات اسلام سے شائع  
ہو رہی ہے تو وہ وفات پاچے ہیں اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ آمين

حاصل ہو رہی ہے، اس لئے ایڈیشن میں محترمی جناب پروفیسر صہی احمد صدیقی صاحب سابق پرنسپل اسلامیہ کالج شاہ بھروسہ پور معتمد مالیات ندوۃ العلماء کا کتاب سے متعلق ایک تعارفی مضمون بھی شامل کیا جا رہا ہے جو انھوں نے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کی بنا پر لکھا تھا، نئے ایڈیشن میں ان اغلاط کی تصحیحات بھی کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے جو پچھلے ایڈیشن میں تصحیح سے رہ گئی تھیں اور مضاف میں کی ترتیب میں بھی ہلکی ترمیم کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب لوگوں کو بہتر سے بہتر صلحہ عطا فرمائے

جن کا اس سلسلہ میں تعاون رہا، اور وہ اسے قبول فرمائے، آمين

ناشر

۹ رمضان المبارک ۱۴۲۶ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## زگاہ اولیٰ

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی آئے، وہ سب ایک زمانہ، ایک دور، ایک حلقہ اور ایک علاقہ کے لئے آئے، پھر یہ کہ جملہ انبیاء کرام جو تعلیمات لے کر آئے، وہ ایک خاص مدت اور خاص ماحول کے لئے تھیں، جو نہی تقاضے بدلتے یہ تعلیمات بھی غیر موثر ہو گئیں۔ اس کے علاوہ ان کی پیروی کرنے والے ان کی حفاظت میں ناکام رہے۔ البتہ نبوت کے اس ”ربانی تسلسل“ میں کوئی بھی اپنے زمانہ سے قیامت کے قائم ہونے تک اور دنیا کے ہر گوشے اور ہر خطے کے لئے آیا اور اس کی تعلیمات محدود زمانہ اور مخصوص ماحول کی حد بندیوں سے مادراہ ہیں اور ان تعلیمات کی حفاظت کا مضبوط اور موثر نظام کیا گیا، تو وہی ہے جسے لوگ محمد کہتے ہیں۔ درود ہو ان پر، سلام ہو ان پر۔

اس پس منظر میں کس قدر حقیقت افروزا اور معنی خیز ہے مولانا سید مناظر حسن گیلانی کا یہ جملہ:

”ایک“ اور صرف ایک جو آیا اور آنے کے لئے آیا، وہی اُنگنے کے بعد پھر کبھی نہیں ڈوبا، چمکا اور چمکتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، چڑھا اور چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔“ (التبی القائم)

گویا ”وَرَفَعَنَالَّكَ ذِكْرَكَ“ کی تشریح اور اس شعر کی تعبیر:

اک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں  
ورنہ ہر ایک عروج میں پہاں زوال ہے

یہی وجہ ہے کہ دنیا میں انسانی اصلاح و ہدایت کے جتنے آسمانی اور انہیاں نقوش تھے، وہ سب مت گئے یا اُن کے رنگ پھیکے پڑ گئے، سوائے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نقوش کے۔ یہ نقوش ہر دور اور ہر زمانہ میں زندہ و تابندہ رہیں گے۔ اگر ان نقوش کی حیثیت جلتے چراغ کی ہے، تو اس کی لوگوں کی کسی زمانہ میں مدد نہیں ہوگی، اور اگر اس سورج کی ہے، جس کے بعد دن کی روشنی نمودار ہوتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مولانا گیلانیؒ کی اس بات سے اختلاف کیا جائے کہ ”اسی کے اور صرف اسی کے دن کے لئے رات نہیں۔“ (النبی الخاتم) اس لئے پورے یقین اور کامل و ثوق و اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انسانی مسائل کا حل ”پیغامِ محمدؐ“ کے سوا کہیں اور تلاش کرنے کا مطلب اپنی سفری صعوبتوں کو مزید بڑھانا اور منزل کے فاصلے میں اضافہ کرنا یا منزل کو گم کرنا ہے۔ کیونکہ ”پیغامِ محمدؐ“ کا سرچشمہ خود خالق کائنات کی تعلیمات و ہدایات ہیں، جو ہمارا مالک و آقا ہے، اس لئے آج کی مصیبت زدہ اور تشنہ لب انسانیت کو جس ”آبِ حیات“ کی تلاش ہے، وہ چشمہِ محمدؐ ﷺ کے سوا کہیں اور نہیں مل سکتا۔ اسی لئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے:

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتَلَقَّى عَلَيْكُمْ أَيْتُ اللَّهُ وَفِيهِمْ

رَسُولُهُ ط (آل عمران: ۱۰۱)

”اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو، در آنحال یکیہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اس کے رسول (اپنی زندگی میں اپنے حقیقی وجود کے ساتھ اور بعد وفات اپنے سفن و آثار کے ذریعہ

موجود ہیں)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِبُوْا لِلَّهِ وَلِرَسُولِ إِذَا  
دَعَاكُمْ لِمَا يُحِبِّيْكُمْ (الأنفال: ٢٣)

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کو بلیک کہو، جب کہ وہ (یعنی  
رسول) تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلا میں)

قُلْ إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَيُحِبِّكُمُ اللَّهُ  
وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (آل عمران: ٣١)  
آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو،  
اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ بڑا  
بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے)

وَمَا أَنْتُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  
(الحضر: ٧)

تو رسول جو کچھ تمہیں دیدیا کریں وہ لے لیا کرو اور جس سے تمہیں  
روک دیں، رُک جایا کرو

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الازاب: ٢١)  
تمہارے لئے رسول اللہ (ﷺ) کا عمدہ نمونہ موجود ہے۔

ان آئیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن حیثیتوں کو اجاگر کیا گیا ہے،  
حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی مدظلہ کی اس کتاب میں آپ کو ان کی تشریح  
و توضیح کے حسین جلوے ملیں گے، ابھی آپ نے سورہ احزاب کی جو آیت پڑھی ہے،  
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ”اسوہ حسنة“ یا ”عمارہ نمونہ“ کا تذکرہ ہے،  
اس کے بارے میں کتاب کے مصنف کا دل آؤز قلم یوں گہر بار ہوتا ہے:

”تاریخ انسانی کے طویل سلسلے کے مطابعے اور جائزے کے بعد یہ بات بلا خوف تردید کی جا سکتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات، ہی تمام انسان کے لئے (بلا تخصیص زمان و مکان) اسوہ حسنہ اور کامل و جامع نمونہ ہے۔ جس کی اتباع و تقلید اور اس سے استفادہ و فیضیابی ہی افراد کی تعمیر سیرت، کردار سازی اور اقوام ملک کی دینی و دینوی صلاح و فلاح کی تہاضامن، مسائل حیات اور زندگی کی گوناگون مشکلات کا واحد حل، قیام امن و مساوات کا واحد لائحہ عمل، اخلاقی و روحانی، سیاسی و معاشرتی، اقتصادی و تہذیبی ترقی کا کامیاب ذریعہ و سیلہ اور مجموعی طور پر بہترین نظام زندگی، کامل دستور حیات اور انسانیت کے لئے ”سفینہ نجات“ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لئے قابل تقلید نمونہ بنانا کر بھیجا اور سارے انسانوں کو اس بات کی تاکید کی کہ اپنے پروردگار کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کے رحمۃ للعالمین نبیؐ کو اپنی زندگیوں کے لئے نمونہ سمجھیں اور اپنے عمل کو اسی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے اعمال و افعال کو عقیدہ توحید کے ساتھ اسی کوشش کی بنیاد پر قبول کرے گا یا رد کرے گا، (نقوش سیرت)

مصنف اپنے اسی مضمون (اسوہ رسول ﷺ اور ہمارا فرض) میں آگے لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی ذات والا صفات کو جامع کمالات بنایا، رسالت کے مختلف پہلو، قیادت کے نوع ب نوع خصائص اور بلند انسانی اخلاق آپ ﷺ کی ذات میں جمع تھے۔ آپ کی شریعت ہمه

گیر تھی، اور آپ ﷺ سیاسی اور فوجی قیادت کی بھی اعلیٰ صلاحیت کے حامل تھے، وسیع پیانہ پر ایک علمی و فکری بیداری آپ ﷺ نے پیدا کی، انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے نہایت مضبوط بنیادوں پر آپ ﷺ نے اسلامی زندگی کی تعمیر فرمائی، آپ ﷺ کی ذات سے انسانی تاریخ کے ایک نہایت زریں و روشن باب کا آغاز ہوا، ایسا باب جیسا اس سے قبل دیکھنے میں نہ آیا تھا، جہاں دین بھی تھا اور دنیا بھی تھی، اخلاق بھی تھے اور سیاست بھی تھی، دعوت بھی تھی اور عمل بھی تھا، جہاں انسانیت کی خدمت بھی تھی اور حق کا دفاع بھی، مسلح جہاد اور نبرد آزمائی کے طریقے بھی تھے، اور صلح کی زندگی بھی، تاریخ انسانی نے اپنی ذات والاصفات سے جس دور کا آغاز کیا وہ اس اعتبار سے تاریخ کا بڑا عظیم الشان دور تھا، کہ یہ انسان کی دینی و فکری قائدانہ زندگی پر محیط تھا، اور آپ ﷺ کی پاکیزہ شریعت حیاتِ انسانی کے مختلف گوشوں پر سایہ فگن تھی، اس شریعت میں تمام انسانی طبقات، گروہوں اور عناصر کو ایک لڑی میں پروردیا اور ان سب کو ایک جادہ کا مسافر بنادیا، وہ جادہ "فضیلت، حق اور خیر کا تھا"۔ (نقوش سیرت)

اللہ تعالیٰ نے اپنے جس رسول ﷺ کی زندگی کو نمونہ کی زندگی بتایا ہے، اس رسول ﷺ کی بارے میں صاحبِ کتاب نے جو تشریح و توضیح کی ہے، اس کا ایک دلکش مختصر نمونہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ پوری کتاب اسی طرح کے نمونے اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ دورانِ مطالعہ میں نے محسوس کیا کہ مختلف موقع، مختلف مناسبت اور مختلف موضوعات پر لکھے گئے (۲۵) مضمایں کا یہ گلdestہ مشامِ جاں کوتازگی بخشے کے ساتھ قلب و نظر کی تسلیم کا باعث ہے۔ اس کتاب میں عصر حاضر کی مریضانہ ذہنیت اور

یہاں فکر و نظر کے لئے شفا کا سامان بھی ہے۔

کتاب کے مصنف صاحبِ نسبت بزرگ حضرت مولانا سید محمد رافع حسني ندوی مدظلہ (پیدائش: ۱۹۲۹ء) علمی و قلمی دنیا میں خوب جانے پہچانے ہیں۔ عربی زبان میں ان کی شهرت کمال درجہ کو پہنچی ہوئی ہے۔ مولانا کی متعدد قیمتی کتابیں ایسی ہیں، جنہیں اہل علم نے قدر کی نگاہوں سے دیکھا اور شوق کے ہاتھوں لیا ہے۔ مولانا کی تحریر آسان، سہل، شستہ اور شلغفتہ ہوتی ہے۔ چونکہ اسلوب نگارش میں بے تکلفی ہے، اس لئے ان کی بات دل سے نکل کر سیدھے دل تک پہنچتی ہے۔ کثیر المطالعہ، جہاں دیدہ اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسني ندویؒ کے فیض یافتہ ہیں۔ اس لئے بات میں گہرائی، گیرائی، باخبری، زمانہ شناسی، پختگی، بصیرت اور للہیت ہوتی ہے۔ مولانا کے نام کے ساتھ "حسنی" بھی ہے اور بلاشبہ ان کے اس "حسنی خاندان" نے نام کی مناسبت سے علم و عمل، اخلاق و اخلاص اور اصابت رائے کی جو روایات قائم کی ہیں، وہ قابل قدر اور لاکن تحسین ہیں۔ مولانا کی طبیعت میں خاندانی انکسار اور شرافت ہے۔ حسن اخلاق متأثر کرن ہے۔ مولانا اس وقت ندوۃ العلماء کے ناظم ہیں۔ مگر تعلیمی فراغت کے بعد ۱۹۵۵ء ہی سے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے وابستہ چلے آرہے ہیں۔ گویا اس عظیم عالمی تعلیمی ادارہ سے واپسی پر نصف صدی کا عرصہ بیت چکا ہے۔ ہندوستان کی باوقار اور شہرت یافتہ تنظیم "آل انڈیا مسلم پرشل لا بورڈ" کے صدر کے ساتھ ہندو بیرون ہند میں مختلف تعلیمی کمیٹیوں اور اسلامی اداروں کے رکن اور ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ ہندوستان میں مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ کے صدر، دینی تعلیمی کونسل اتر پردیش کے صدر، دارعرفات اکیڈمی رائے بریلی کے صدر، لمصنفوں اعظم گڑھ کے رکن، مولانا آزاد اکیڈمی کے رکن اور ہندوستان سے باہر کی تنظیموں اور اداروں میں سے آکسفورڈ سنٹر فار اسلامک اسٹڈیز برطانیہ کے ٹریسٹی، رابطہ

ادب اسلامی عالمی کے نائب صدر اور اس کے شعبہ برصغیر اور ممالک شرقیہ کے صدر، رابطہ ادب اسلامی مکہ مکرمہ کے رکن تائیسی ہیں، ان کے علاوہ ملک کے مختلف دینی، اسلامی مدرسون کے سرپرست ہیں۔

کم و بیش (۲۷) سالہ مولانا محمد رانع ندوی کا تعلق حیدر آباد سے بہت قدیم ہے۔ یہاں آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ان کے خاندان کے بزرگ مولانا حکیم سید عبدالحکیم اور مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کی کتابوں کو حیدر آباد کے شہرہ آفاق تصنیفی و تحقیقی ادارہ ” دائرة المعارف ” نے شائع کیا ہے۔ حیدر آباد سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد ہیں جو مولانا سید محمد رانع حسنی ندوی سے ڈھنی ربط، فکری مناسبت اور روحانی نسبت رکھتے ہیں۔ حیدر آباد میں ”مولانا سید ابوالحسن علی ندوی میموریل سنٹر“ کے نام سے جو ادارہ مولانا علی میانؒ کی وفات کے بعد قائم ہوا جس کے ایک حصہ میں ”مکتبہ الحسنی“ ہے اس ربط، مناسبت اور نسبت کا جملی عنوان ہے۔ ”مکتبہ الحسنی“ اور میموریل سنٹر نے اپنے زیر اہتمام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کے پہلے حج (۱۹۲۱ء) کے تاثرات و معلومات پر مشتمل بیش بہا کتاب ”اپنے گھر سے بیت اللہ تک“ حج کے مہینوں میں سے پہلے مہینہ شوال (۱۳۲۲ھ) میں شائع کی تھی، اب یہ سنٹر ہادی اعظم، نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کے مہینہ (ربیع الاول ۱۳۲۲ھ) میں مولانا سید محمد رانع ندوی صاحب کی کتاب ”نقوش سیرت“ شائع کر رہا ہے۔ ”نقوش سیرت“ کے جمع و ترتیب میں مولانا سید محمود حسن (لکھنؤ) نے قابل قدر کوشش کی ہے۔ مولانا سید بلاں عبدالحکیم (تکلیف کلام، رائے بریلی) نے اس سلسلہ میں جس طرح کا تعاون کیا ہے وہ بھی لاکٹ ستائش ہے۔ باطنی خوبیوں کے ساتھ دلکش سروق اور دیدہ زیب طباعت سے آراستہ اس کتاب کی اشاعت میں محترم جناب سید غلام محمد انجینئر (حیدر آباد) اور محترم جناب محمد عبد الرشید (انجینئر مسجد نبوی مدینہ منورہ)

نے اپنی خصوصی دلچسپی کا ثبوت دیا ہے۔ بلاشبہ ان کی یہ دلچسپی قابل قدر بھی ہے، لائق رشک بھی ہے اور باعث سعادت بھی..... کاش! موجودہ حالات اور زمانی ضرورت کے پیش نظر ”نقوش سیرت“ (صفحات تقریباً ۲۰۰) کا انگریزی اور ہندی ایڈیشن بھی آ جاتا تو بہتر تھا، اس سے افادیت اور نافعیت کا دائرة اور بڑھ جاتا اور ”پیغام سیرت“ کو عصر حاضر کے تقاضے کے مطابق باخبری اور بصیرت کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے میں مدد ملتی۔

جب میں ان سطروں کو ختم کر رہا ہوں، لکھنؤ سے تھوڑے فاصلہ پر واقع کانپور سے تعلق رکھنے والے فنا نظامی کانپوری ”نقوش سیرت“ کے معنی خیز نام کے پس منظر میں اپنی نعت کا یہ لا فانی شعر پیش کر رہے ہیں:

شاید اسی کا نام ہے تو ہین جستجو  
منزل کی ہوتلاش ترے نقش پا کے بعد

ماہر القادری برسوں حیدر آباد میں رہ چکے ہیں۔ ”نقوش سیرت“ کی اشاعت پر اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے عالم کیف موتی میں اندر کے پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں:

مرے سر کار کے نقشِ قدم شمعِ ہدایت ہیں  
یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کار استا کہئے

محمد رضوان القاسمی (۱)

۲۶ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ

دارالعلوم سبیل السلام، حیدر آباد

۲۹ ربیع ستمبر ۲۰۰۳ء پنجشنبہ

(۱) افسوس کے مولانا محمد رضوان القاسمی صاحب بانی و ناظم دارالسلام، حیدر آباد نے حیدر آباد میں مورخہ

۲۵ ربیع بن حمادہ اللہ تعالیٰ واصحہ

## نقوش سیرت۔ ایک مطالعہ

پروفیسر صدیقی صاحب (سابق پرنسپل اسلامیہ کالج شاہ جہانپور)

جناب مولانا محمد رابع حسني ندوی کی نئی کتاب ”نقوش سیرت“ میرے پیش نظر ہے، یہ ان مضامین کا مجموعہ ہے جو مختلف رسائل میں شائع ہوئے ہیں اور اب کتابی شکل میں سامنے آئے ہیں، اپنے احساسات کو لکھتے ہوئے میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ مولانا کی دارالعلوم کی نظمات، پرسنل لا بورڈ کی صدارت اور دوسرے باوقار عہدے میرے ذہن میں نہ آئیں تاکہ مصنف کی عظمت سے متاثر ہو کر غیر شعوری طور پر کوئی ایسی مبالغہ آمیز بات نہ لکھ جاؤں جو میرے لئے بدعتی کی بات ہو اور جناب مولانا کے لئے گرانی کی۔

کتاب کے لاکن مقدمہ نگارنے اپنے مقدمہ کو ”نگاہ اولیں“ کا نام دیا ہے اور دوسرے کتاب کے نام کی مناسبت سے لکھے ہیں، ایک فنا نظامی کا نپوری کا اور دوسرا ماہر القادری کا، یہ دونوں شعر میرے لئے نئے ہیں اور یقیناً اچھے ہیں مگر پرتو انھیں دواشمار کے ہیں جو مدت سے زبانِ زد خاص و عام ہیں اور وقت کے گزر نے سے ان کی تازگی اور والہانہ پن میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، میں انھیں لکھ رہا ہوں۔

اردو کا شعر

منزل ملی مراد ملی مدعای ملا  
سب کچھ مجھے ملا جو ترائقش پا ملا

اور فارسی کا شعر

بہ زمینے کہ نشان کف پائے تو یود  
سالہا سجدہ صاحب نظر اخ خواہد شد

یہ دونوں شعرا پنے معنوی حسن اور نغمگی سے آج بھی صاحبِ دل حضرات  
کو وجود میں بنتا کر دیتے ہیں مگر اس کتاب کے مضامین تصوف اور ماورائیت سے کم  
تعلق رکھتے ہیں اور زندگی کی حقیقوں سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح  
معاملہ کیا اور کرنے کے لئے فرمایا صرف ان کو بیان کرتے ہیں۔ تصوف نہ ہی مگر روحانیت  
سے پڑ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کا بیان ہے، اس مبارک زندگی  
میں کیسا اعتدال اور توازن رہا، انسانیت نوازی اور ساری مخلوق کے لئے نعمت و رحمت  
ہونے کا ذکر ہے، جس کے لئے اللہ نے ان کو رحمۃ للعلمین فرمایا۔ پھر مولانا نے اپنے  
سرکار ﷺ کے امتيوں کو بتایا کہ ویکھو محبت رسول ﷺ کے تقاضے کیا کیا ہیں صفات  
رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے لئے قابل اتباع نمونہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم  
سے انتہائی تعلق اور کامل پیروی میں ہی تکمیل ایمان ہوتی ہے اور یہی تعلق اور پیروی  
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے گھری محبت پیدا کرتی ہے۔

یہ مضامین اپنی افادیت اور ندرت کے لحاظ سے اپنی نظیر آپ ہیں۔ پوری  
کتاب سادہ عبارت میں ہے اور جوانداز بیان ہے وہ دل میں اک دم گھر کرتا ہے۔  
ذکر کس کا ہے۔ اپنے نبی ﷺ کا جو خاتم بھی تھے اور خاتم بھی اور ذکر کرنے والا وہ اُمّتی  
جو ان کی محبت میں سرشار ہے اور اپنے سارے علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے  
مبارک پر رکھ رہا ہے، وہ علم جو بے پناہ مطالعہ سے پیدا ہوا ہے، ایسا علم جو صرف علم کتابی

نہیں بلکہ علم نافع ہے۔ کیا عرض کروں ”بفتی نہیں ہے بات بادہ و ساغر کہے بغیر“، جو مضمایں خود مضمون نگارر کے گدازی قلب کے آئینہ دار ہیں۔ پوری کتاب میں تعلیمات اور فرمودات کے موئی بکھرے ہوئے ہیں، کیسی سادگی سے ان کا بیان ہے۔ یہ گلشن ہست و عدم اللہ کا بنایا ہوا ہے اس کے با غباں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کے مصور ہمارے مولانا۔

یہ مضمایں ان سے تعلق رکھتے ہیں جو امام انبیاء ہیں سرور کون و مکان ہیں، جو ائمیں اور صادق تھے، جنہوں نے انسان کو مساوات کا تحفہ دیا جو حامل کتاب اور سراپا کتاب تھے، جو بے کسوں کے مربی تھے، بے سہاروں کے کفیل تھے، جن کو ہمیشہ ہماری بہتری کی فکر رہتی تھی جن کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن دل نہیں جن پر راز نہاں ہو یہاں تھا اور جو اُمی تھے لیکن جن کے لئے حافظ شیرازی نے کہا ہے کہ

نگار من کہ بہ مکتب نہ رفت و خطہ نہ نوشت

بغزہ مسئلہ آموز صد مدرس شد

اور سعدی کا شعر ذہن میں آتا ہے۔

تیئے کہ نا کردہ قرآن درست

کتب خانہ چند ملت بششت

کیسے صاحب دل شراء تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اپنا دل نکال  
کر رکھ دیتے تھے۔

مولانا کا دل بھی عشق کی جلوہ گاہ ہے، مولانا کی تحریر ایک طرح سے شعور حسن کا اعلان ہے یہ تحریر یہی خالص واقعات اور حقیقوں کا بیان ہیں مگر میں السطور میں شاعرانہ ادراک اور صوفیانہ ادراک دونوں ہیں صنائی سے پہیزہ نے جاذبیت پیدا کر دی ہے کیسا فطری، حسین رفت بخش اور دیانت دار بیان ہے، دماغ اور دل ہم آہنگ ہیں

جذبہ اور فکر گلے مل رہے ہیں، سحرِ حلال سے ان کی مثال دی جاسکتی ہے یہ طسم خیالی نہیں، اس کی روح تو مولانا کے ہاتھ میں ہے۔

یہ باتیں جو مولانا نے لکھی ہیں پہلے بھی لوگوں کے علم میں رہی ہیں اور بیان بھی کی گئی ہیں مگر ایسا حسنِ بیان کہاں، یقیناً تحریر کی قدر و قیمت نفسِ مضمون سے ہوتی ہے مگر وہ صدقتوں جو مطلق اور بدیہی ہوں صرف حسنِ بیان ہی سے انسان کے قلب پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔

آئیے اب کتاب کے مندرجات پر زنگاہِ ذاتی جائے۔  
پہلا مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف ادوار سے تعلق رکھتا ہے، نبوت کی ابتدا، کافر کس طرح آپ کو اور مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے تھے، ایسی ایذا رسانی جو موت کا بھی باعث ہو جاتی تھی، کیسے آپ کے رفقاء نے ۱۳ ربرس تک کی مدت، اسلامی دعوت اور ایمانی تربیت کے ساتھ صبر و برداشت میں گزریں۔ طائف کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی اور حمایت حاصل کرنے کے لئے کیا تھا مگر وہاں عام انسانی اخلاق بھی نہیں ملا بلکہ سخت اذیت پہنچائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کے اعلیٰ معیار کو ترجیح دی، دعا میں اپنی بے بُسی اور ناطقی کا اظہار کیا لیکن سزا پر راضی نہیں ہوئے۔ پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کا بیان ہے، دشمن اجتماعی طاقت سے حملہ آور ہوتے اور آپ مقابلہ کرتے، یہودی اور منافقین اندر وہی طور پر شتمی کرتے، ان کو بھی جھیلتے پھر بدر کا معرکہ ہوا، غرض ان باتوں کا بیان جن میں حضرت نے مشقتوں سے گزارے گئے، شخصی ساخنوں سے بھی گزارے گئے، راحت و سرت سے بھی گزارے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ساری انسانی برادری کے لئے ایک مثال بنی، کیا اعلیٰ صبر و رضا اور وسیعِ لفظی کا نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔

پھر ماہِ سعادت یعنی ربیع الاول کا بیان آیا، مولانا نے کلامِ پاک کی آیت لکھی

جس میں عربوں سے خطاب ہے کہ تم ہی میں نبی آیا ہے اور تم ہی میں کا ایک فرد ہے، اس کو تمہارے دکھ درد کی بے حد فکر اور احساس ہے، وہ تمہارا بے حد خیال کرنے والا ہے اور ایمان لانے والوں کے لئے بے حد شفیق اور رحم دل ہے۔ پھر دوسری آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لئے رحم و کرم بنائے کر بھیجا ہے۔ یہ چھوٹا سا مضمون اپنی مثالوں کے لحاظ سے منفرد ہے اور ان آیتوں کی تفسیر ہے جن کا ترجمہ بھی لکھا گیا ہے، آگے کا مضمون بھی اسی تسلسل میں ہے، ربع الاول کا اصل پیغام خدائے واحد کی بندگی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اور محبت ہے، مولانا نے خاص ہجرت کو بطور واقعہ بیان کرنے کے ساتھ بہترین نتائج نکالے ہیں، ہجرت کا عمل بڑا عظیم عمل ہے، یہ عمل ہے جس کا درجہ جہاد کے علاوہ ہر عمل سے بڑھ جاتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی پر مضمون کتاب کی جان ہے، یہ مضمون نسبتاً طویل ہے اور بے حد اثر ڈالنے والا ہے، آپ ﷺ نے ساری راحت و آرام حاصل ہونے کے باوجود غریب اور سادہ طرز زندگی اختیار کی۔

رفقاء کے لئے ایک نہایت ہمدرد اور انس و محبت رکھنے والے سر پرست تھے، بچوں اور بوڑھوں کا بے حد خیال رکھنے والے، اس خیال رکھنے میں ان کی مزید دل جوئی کے لئے ہلکا سا مزاح بھی کبھی کبھی کر لیتے تھے جیسے ابو عیسیٰ کی چڑیا کی پرسش، بوڑھی عورت سے بتانا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے اور پھر اس کی وضاحت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے بہترین حصہ کو ایک ایسی بیوی کے ساتھ گزار جوان سے عمر میں بڑی تھیں، انتقال کے بعد ہمیشہ محبت سے یاد کیا۔ آپ ﷺ نے ازواج مطہرات میں اپنے معزز خاندان اور دیگر خاندانوں کی خواتین کو شامل کیا، نو مسلم خاتون، باندی بن کر آنے والی خاتون کو آزاد کر کے رشتہ زوجیت میں لیا، یہ

شادیاں تعلق والوں کی دلداری کے لئے تھیں، غلط رواج کو باطل کرنے کے لئے بھی تھیں، سب کے ساتھ انصاف اور برابری کا برداشت کیا اور اپنی پسند کو ترجیح نہیں بنایا۔ بچوں کو پیار کرتے تھے۔ کبھی اپنی ذات کے لئے کسی پر غصہ نہیں کرتے تھے۔ صاحبزادی حضرت فاطمہ زہراؓ انتہائی چیزیں تھیں مگر ان کے لئے مال و دولت کیا ایک خادمہ کا بھی انتظام نہیں کیا غرض پورا مضمون ایک ایسے نبی کے ذکر پر ہے جو رحمت ہی رحمت تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اعتدال اور توازن کو بہت عزیز رکھتے تھے، بطور نصیحت خود اپنی ذات مبارک کے لئے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ متقدم اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں روزہ رکھتا ہوں اور روزے سے خالی دن بھی چھوڑتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، جو میرے طریقہ پر نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتيوں کو تعلیم دی مگر آپ ﷺ عبادت گزار اور شب زندہ دار ایسے تھے کہ پیروں میں درم آجاتا، روزے اتنے رکھتے کہ شعبان کا ہمینہ بھی اکثر و پیشتر روزوں میں گزر جاتا مولانا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان کیا ہوا دودھ کا واقعہ لکھا کہ کیسے تھوڑے سے دودھ نے بہت سے لوگوں کا پیٹ بھرا۔ یہ تو خیر ایک معجزاتی کیفیت تھی مگر یہ واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کی کتنی کمی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کر دوسروں کی بھوک کو اپنی بھوک پر ترجیح دی۔ آپ ﷺ نے اعلان فرمایا تھا کہ کوئی مسلمان اگر انتقال کر جائے تو اس کا چھوڑا ہو مال اس کے ورثاء کا اور جو قرض وہ چھوڑ گیا اس کی ادائیگی میرے ذمہ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو یہ پیام دیا کہ اپنی دنیاوی ضرورت کو اللہ کے حکم کے مطابق اور رضاۓ اللہ کی نیت سے پورا کیا جائے تو ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسے کسی مذہبی کے عمل سے ملتا ہے۔

مصنف کتاب کاسب سے پسندیدہ موضوع یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری انسانیت کے لئے نعمت و رحمت ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے تو سب ہی مسلمان ہیں اور واقعی ان کا دعویٰ صحیح ہے مگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں، وہ جو کام، احکام اور شریعت لائے اس کا ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا، اسلام نے حق کا راستہ بھی متعین کیا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول ﷺ کے لئے فرمایا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول ﷺ کی زندگی میں اچھا نمونہ ہے اور یہ ہر اس شخص کے لئے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور آخرت کے دن کی جواب دہی کا خیال رکھتا ہو اور اس نے اللہ کو یاد کیا ہو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک درست نہیں جب تک تم مجھ کو اس سے زیادہ محبوب نہ بناؤ جتنا تم کو اپنے باپ اپنی اولاد اور دنیا کے سب محبوب لوگ ہو سکتے ہیں۔

کیسا ہی سخت امتحان ہو طاعت اور محبت میں فرق نہیں آتا تھا، اس ضمن میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا عبرت آموز ہے۔

مضامین کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اب موضوعات میں صفات نبوی ہر مسلمان کے لئے قابل اتباع نمونہ ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی تعلق اور ان کا اتباع کامل، امت کی رہنمائی اور لوگوں کے ساتھ سلوک میں ذوق و مزاج کی رعایت اور کلام میں ادبی حسن کا لحاظ، بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت و تبلیغ اور عصری تحریکات، سیرت نبوی میں دعوت اور سیاست کا امتزاج اور اس میں ہمارے لئے رہنمائی، عہد حاضر میں تعلیمات نبوی کی ضرورت، معاشرہ کی اصلاح میں حدیث و سنت سے رہنمائی، سیرت اور اخلاق کی تعمیر میں حدیث کا کردار سیرت نبوی اور ادب، کلام رسول ﷺ اور بی بлагحت کا شاہکار، مولانا نے بہترین نکات پیش کئے ہیں۔

میرا یہ مضمون عام ڈگر سے ہٹا ہوا ہے۔ اپنی طرف سے باقیں کم کہی ہیں اور

کتاب کے اقتباسات زیادہ لئے ہیں مگر ”یہ زیادہ“ بھی ایسا ہے جیسے غلہ کے ڈھیر سے ایک مٹھی غلہ نکال لیا۔ مگر یہ ایک مٹھی غلہ پورے ڈھیر کی کوالٹی (Quality) کو بتاتا ہے، کتاب کا صفت تو کتاب پڑھنے میں ہے جیسے مٹھائی کے ذائقہ کا طف اس کے کھانے میں ہے، بتانے میں نہیں، یہ کتاب تو پورے طور پر ذکر حبیب ﷺ میں ہے، یقیناً میں کتاب کا حق ادا نہیں کر سکا ہوں مگر یہ دامان نگہ کی شنگی ہے ورنہ خوبصورتی کے یہ پھول تو بے شمار ہیں۔ اب آخری مضمون کا ذکر آتا ہے وہ حمد و مناجات کی ادبیت مولانا نے سر کار دو عالم ﷺ کی دعاؤں اور مناجاتوں کے نمونے پیش کئے ہیں۔ اس کا تفصیلی بیان تو مضمون کو بہت طویل کر دے گا مگر یہ مضمون اس گلدستہ کا سب سے خوبصورت پھول ہے۔

پوری کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اور پاکیزہ زندگی، رواداری، برداشت، ثابت قدمی، بہادری اور ریقت القلمی کے ذکر سے ملو ہے۔ اسوہ حسنة کی بہترین وضاحت ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گدازی قلب اور رقت مزاج کی بے شمار مثالوں میں چند مولانا نے بیان کی ہیں جو دل کو چھو لیتی ہیں۔ اپنے چھوٹے نواسے کو جو جانکی کے عالم میں تھا اپنی گود میں لیتے ہیں اور آنکھ میں آنسو بھرا تے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ آپ بھی ایسے متاثر ہوتے ہیں۔ فرمایا میں انسان ہوں۔ میرے دل میں بھی محبت ہے اور اتنا بھی نہ ہو تو انسان کیا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکلوتے بیٹھ کا انقال ہوا تو فرمایا میری آنکھیں نم ہو رہی ہیں۔ دل غمزدہ ہے لیکن میں اپنے زبان سے صرف وہ کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم تمہاری جدائی ہم پر غمزدہ ہیں۔

مولانا کے مظاہر کا سلسلہ سلسلۃ الذہب ہے بلکہ زیادہ خوبصورت مثال

یہ ہو گی کہ موتیوں کی لڑی ہے۔ سب الگ الگ ہیں مگر ایک ربط باہمی سے بندھے ہوئے ہیں مولانا اپنے محبوب موضوع کو دہراتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تکمیل ایمان کے لئے لازمی ہے۔ یہ ایک طرح سے احسان شناسی اور شکرگزاری بھی ہے جو اعلیٰ ترین انسانی جذبے ہیں۔ اللہ نے وہ رسول ہمارے پاس بھیجا جس کو ہماری تکلیف اور پریشانی گوارہ نہیں۔ وہ ہمارا بہت دھیان رکھنے والا ہے۔

اس مضمون کو ختم کرتے ہوئے میں اس آیت کا ترجمہ لکھ رہا ہوں، جو دین کی تکمیل کا اعلان ہے۔ ”آج یعنی اب میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لئے بحیثیت دین پسند کیا۔“

یہ لکھنا بے محل نہ ہوگا کہ اس کتاب کے مضامین مسلسل طور پر جاذب توجہ ہیں۔

ایک حصہ سے جو لطف ملتا ہے وہ مجموعی طور پر ملتا ہے۔ مصنف کا نام اگر کتاب پر نہ لکھا ہوتا تو وہ بھی مخصوص لب والہجہ، عبارت کا انداز تاثیر اور آہنگ سے اچھے مطالعہ والے فوراً پہچان لیتے کہ نغمہ سرا کون ہے اور اس نے یہ نغمے کس لئے گائے ہیں۔ مصنف کی روح میں ہمہ گیری اور وسعت ہے اور عام آدمی سے زیادہ انسانی فطرت کا علم رکھتے ہیں۔ کیسی باکمال اور معتبر شخصیت لکھنے والے کی ہے۔ یقیناً انہوں نے جو شہرت پائی ہے وہ اس کے پورے طور پر مستحق ہیں۔ وہ حضرت مولانا علی میاںؒ کی یادگار ہیں اور جو قدر و قیمت حضرت مولانا کی اپنی زندگی میں ہوئی وہی مولانا محمد راجح ندوی کی بھی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت خوشگوار تعجب کی بات ہے ورنہ ہماری قوم کے افراد اپنی ساری عقیدت کا اظہار علم و فضل کو خراج اپنے نمدوخ کے نہ ہونے کے بعد ادا کرتے ہیں۔

مضمون کے اختتام پر اللہ تعالیٰ سے مولانا کی صحت و سلامتی اور درازی عمر کی دعا کرتا ہوں۔ خدا کرے یہ ابر گہر بار ایسا ہی برستار ہے اور علم کے موتی ہماری جھوٹی میں پڑتے رہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## پیش لفظ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وختام النبيين محمد وآلہ وصحبه أجمعین،  
ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين۔ أما بعد  
حضرت سیدنا و مقتدا و محبوبا و محظوظا رب العالمین محمد بن عبد اللہ الاملین فدا  
ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آخری امت کا رسول بنایا اور اپنے  
دین کو ان پر نازل کی جانے والی وحی پکمل فرمایا، اور نبوت کا سلسلہ جوانسانوں کے  
مورث اعلیٰ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آرہا تھا، اس کو ختم فرمایا، آپ ﷺ کی  
امت کو کامل معیاری اور دوسرا امت توں کا نگران امت بنایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل انسان بنایا اور مخلوق انسانی  
کے اندر پیدا کی گئی اعلیٰ صلاحیتوں کا حصہ و افر معیار اعلیٰ کے مطابق اللہ تعالیٰ جو اپنے  
نبیوں میں رکھتا رہا ہے، ان کو مزید اعلیٰ و جامع معیار پر اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم  
میں رکھا، اور آپ کو آخری نبی اور نبیوں کا سردار بنایا اور آپ ﷺ کی امت کو حکم دیا کہ  
صفات اور خصوصیات کو اپنے پیش نظر رکھو، اور ان میں سے جتنی اپنی زندگی میں لانے  
کی کوشش کر سکو کوشش کرو، تا کہ تم صرف انسانی مخلوق ہی نہ ہو، بلکہ انسانی خصوصیات  
و مکالات کے اچھے معیار کے مطابق انسان بنو۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں آپ ﷺ کے بارے میں اس کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے بنی فرشتہ نہیں ہیں، ایک انسان ہیں، وہ خالق اور رب نہیں ہیں، بلکہ اپنے خالق اور رب واحد کے بندے ہیں، البتہ انسانوں میں وہ ممتاز ترین انسان اور اپنے رب اور اپنے ہم جنس مخلوق کے درمیان ربط و تعلق کا ذریعہ اور پیغام رسائی ہیں، آپ ﷺ بشر ہیں، نبی ہیں اور رسول ہیں۔ بشر یعنی انسان، نبی یعنی آخرت کی بتائیں بتانے والا، رسول یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا، پھر آپ ﷺ کو آخری نبی بن اک سب پر فوکیت دی، اور آپ ﷺ کی نبوت کا زمانہ قیامت تک پھیلا دیا، یعنی قیامت تک آنے والے سب آپ ﷺ کی نبوت کے سایہ میں اور آپ ﷺ کے لائے ہوئے حکموں کے پابند ہوں گے اور آپ ﷺ کی محبت اور اتباع کو سارے انسانوں کے لئے لازمی اور نجات کا ذریعہ بنایا اب انسانوں کے لئے آپ ﷺ کی پیروی کے کوئی چارہ نہیں، اور آخرت میں کامیابی کے لئے کوئی سہارا نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ انسانی زندگی کے متنوع حالات کا ایک طرح سے مرقع ہے، اس میں ہر انسان اپنے مسائل اور انسانی تقاضوں کے لئے قابل تقلید نمونہ دیکھ سکتا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے مسائل کا حل حاصل کر سکتا ہے، اور یہ آپ ﷺ کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے پر ہی ہو سکتا ہے، جس میں بنیادی طور پر خداۓ واحد پر ایمان، آخرت کی جزا اور سزا پر یقین، اللہ کی مخلوق ملائکہ، اور اس کے سارے انبیاء کے اوپر ایمان اور پھر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع لازم ہے، اور آپ ﷺ کی تعلیمات آپ ﷺ کے اقوال اور آپ ﷺ کے اعمال دونوں میں پھیلی ہوتی ہیں، جن کے لئے آپ ﷺ کے ارشادات سے واقفیت اور آپ ﷺ کی سیرت کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔

مختلف موقعوں پر مختلف دوستوں کے تقاضوں پر مجھ کو سیرت کے سلسلہ میں

اپنے حسب توفیق مطالعہ کی جھلکیاں پیش کرنے کا موقع ملا، جو لکھنؤ مسلم ایسوی ایشن (لکھنؤ) کے سالانہ مخلوں میں اور ندوۃ العلماء کے مجلہ تعمیر حیات کے متعدد شماروں اور مختلف سیمیناروں اور اجتماعات میں مقالوں کی صورت میں پیش کرنا ہوا ان کی تعداد ایسی ہو گئی کہ ایک معتدل خنامت کی کتاب بن سکتی ہے، میرے بعض مخلص دوستوں نے ان کے جمع کرنے کی رائے دی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے یہ مختلف النوع مقالات اس اہمیت کے ہوں گے کہ ان کو مجموعہ کی شکل میں پیش کیا جاسکے۔ لیکن موضوع کی بلندی اور برکت کو دیکھتے ہوئے میرے لئے سعادت کی بات ہے کہ ان سے کچھ معلومات اور تاثرات قارئین کے لئے کچھ مفید ثابت ہوں۔

عزیزی مولوی سید محمود حسن سلمہ نے جن کو تحریر و تقریر کا کچھ ذوق بھی ہے، انہوں نے خاص طور پر اس معاملہ میں دلچسپی لی اور خود ان مضامین کو جمع کیا اور ترتیب قائم کی اور اس کو قابل اشاعت بنادیا، میں اپنے لئے سیرت پاک کی جو بھی چھوٹی موٹی خدمت مجھ سے ہو سکی اس کو باعث برکت و سعادت سمجھتا ہوں اور اس کی اشاعت سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہو تو اپنے لئے نعمت سمجھتا ہوں۔ اس سلسلہ میں عزیز القدر مولوی سید بلال عبدالحی سلمہ بن سید محمد الحسنی نے بھی تعاون کیا۔

حیدر آباد کے بعض دوستوں (جن میں الحاج انجینئر غلام محمد صاحب اور الحاج انجینئر محمد عبدالرشید صاحب پیش ہیں) نے اس بات کا علم ہونے پر اس کے شائع کرنے کا ذمہ لیا، میں اپنے دیگر احباب و معاونین کا بھی شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان سب کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے اور اس کو شش کو شرف قبولیت بخشدے۔ اور ہمارے لئے سعادت و برکت کا ذریعہ بنائے۔ (آمین)

محمد راجح حسنی ندوی

خاتون منزل، گولہ گنج، لکھنؤ

دوشنبہ ۲۵ صفر ۱۴۲۳ھ

## سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ

انسانی مخلوق کو زندگی کے صحیح اور مناسب کردار کے راستے پر چلانے کے لئے ان کا پروردگار خود انسانوں میں سے ایسے اشخاص کو مقرر فرماتا رہا ہے جو اس کی دی ہوئی ذمہ داری کے کام کو اخلاص و ہمت سے انجام دے سکیں، ہدایت کے اس اہم کام کے لئے پروردگار عالم کی طرف سے جو انسان مقرر ہوئے وہ نبی اور رسول کے لفظ سے یاد کئے جاتے رہے وہ اپنی نفسیاتی عقل و جسمانی خصوصیات میں مکمل اور اپنے ہم جنسوں میں فائق اور بلند خصوصیات کے حامل ہوتے تھے، یہ سلسلہ انسانوں کے مورث اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قائم رہا، انبیاء میں اعلیٰ خصوصیات و صلاحیتوں کے ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پیدا کئے جانے کے لحاظ سے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے معاملہ میں بہتر ترین اور مکمل بنایا، اور اس کے لئے خاص طور پر آپ ﷺ کو زندگی کے مختلف و متنوع شیب و فراز سے گذارا جو انسان میں مختلف حالات کو جھیلنے اور مناسب راہ نکالنے کے لئے معاون ہوتے ہیں، اولاً آپ ﷺ کو تینیم پیدا کیا، پیدا ہونے کے بعد آپ ﷺ کی زیگاہ جب باشур ہوئی تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ آپ کو سایہ پر دی حاصل نہیں جب کہ سیکڑوں آپ ﷺ کے ہم سنوں کو یہ حاصل

ہے، یہ بات ایک معصوم اور صغير است بچہ کے قلب و ذہن کے لئے ایک بوجھ اور شکستہ دلی کا باعث ہوا کرتی ہے، پھر مزید یہ کہ چھ سال کی عمر میں ہی سایہ مادری بھی باقی نہ رہا۔ اور اس کے بعد پھر شفقت کرنے والے دادا بھی ۸ سال کی عمر میں موجود نہ رہے، ان محرومیوں کو اگر بچہ نجیں و خوبی نہ جھیل سکے تو اس کی زندگی کی راہ پیچیدہ ہو جاتی ہے، اور زندگی میں اس کی کامیابی بھی ہو کر رہ جاتی ہے، لیکن اگر اس بوجھ کو خدا داد ہمت سے جھیل لے تو اس کی شخصیت میں مشکل حالات کو جھینٹے اور ان میں ضرورت اور پسند کی راہ نکالنے کی خاصی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہمت خصوصی طور پر عطا فرمائی جس کی بنا پر آپ ﷺ میں حالات اور واقعات کے تقاضوں کو مناسب ڈھنگ سے محسوس کرنے اور زندگی کے چیزوں کا مناسب ڈھنگ سے مقابلہ کرنے کی سمجھ اور ہمت پیدا ہوئی اور جلد ہی آپ ﷺ نے باعزت زندگی کی راہ اختیار کی، اور زندگی کو عزت نفس اور عالی ہمتی سے آراستہ فرمایا، مزید یہ کہ آپ ﷺ میں زندگی اور کائنات کے سربست راز کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کا ذوق پیدا کیا چنانچہ آپ ﷺ نبوت ملنے سے قبل ہی شہر کی آبادی سے نکل جاتے اور آبادی سے الگ ایک غار میں کچھ وقت گذارا کرتے، ظاہر ہے آپ ﷺ کا تہائی اور تخلیہ میں کچھ وقت گذارنے کا جذبہ و تقاضہ اعلیٰ حقیقت کی طلب اور اس کے سلسلہ میں غور و فکر کے لئے رہا ہو گا انہی جیسے احساسات کے نتیجہ میں تھا، پھر چونکہ پروردگار عالم نے عربوں اور غیر عربوں کے حق اور خدا کی بندگی کی صحیح راہ سے بہک جانے کو دیکھتے ہوئے ان کی ہدایت کے لئے آپ ﷺ کو مقرر کرنا طے کیا، اس لئے پرده غیب سے وہ اشارے آنے لگے اور نبوت ملنے سے قبل ہی جھروشجر سے اللہ کے نبی کے عنوان سے مخاطب کرنے کی آوازیں بھی آنے لگیں جن کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے متوجہ ہو جایا کرتے لیکن کوئی قابل نظر نہ آتا کانوں کو ان صد اوں سے آشنا کر دینے کے

بعد باقاعدہ حضرت جریل علیہ السلام ان صد اوں کی حقیقت لے کر آپ ﷺ کے پاس آپ کے تخلیہ کی جگہ غارِ حرا پہنچے، اور نبوت کا پیغام پہنچایا، پھر وقت کے کچھ فرق سے اپنی اصل شکل میں بھی افق پر ظاہر ہوئے تاکہ ذہن کے کسی گوشہ میں پیغام خداوندی کے لانے والے اس فرشتہ کو نامعلوم محسوس کرنے کا کوئی شائنبہ نہ رہ جائے۔

اس طرح آپ ﷺ پر نبوت و رسالت کا وہ عظیم بارڈا لایا جو وسعت کے لحاظ سے دیگر تمام انبیاء پر نہیں ڈالا گیا تھا، جس کو آپ ﷺ کے خداداد فراست رکھنے والے قلب و ذہن نے اس کی ذمہ دارانہ اہمیت کو محسوس کیا، اور آپ ﷺ نے اپنی عاقل و مخلص اہل خانہ سے بھی اس واقعہ کا اور اس کے عظیم بوجھ محسوس کرنے کا تذکرہ کیا، انہوں نے تسکین دی اور آپ ﷺ کی اعلیٰ انسانی صفات، کریم النفسی اور اعلیٰ انسانی کردار کی مثالوں کے حوالہ سے اس کو بلند اور مقدس ذمہ داری قرار دیا اور مزید تقویت کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آشنا اپنے بھائی ورقہ بن نوفل سے جا کر تصدیق کرائی، اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ میں اس بار کے اٹھانے کی صلاحیت و دلیعت کی تھی، چنانچہ آپ ﷺ نے اس بار عظیم کو یعنی عظیم دعوت دین کی خاردار گزرگاہوں میں چلنے کو ہمت و بلند نظری سے قبول کیا، اور ہمت اور عزیمت کے ساتھ بھایا، آپ ﷺ نے آغاز عمر سے ہی زندگی کی خاردار را کوٹے کیا تھا۔

بآپ کی طرف سے تیسی کے مرحلہ سے آپ ﷺ کو پیدائش سے قبل ہی سابقہ پڑا تھا، پھر ماں کی طرف سے تیسی، پھر قربی مشفق و مری (یعنی دادا کی بھی) ۸ سال کی عمر تک پہنچنے پر جدا تی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر کرم رہی اور اس نے مشفق پچا عطا فرمایا جس کی ہمدردی و شفقت سے عمر کے پختہ ہو جانے کی مدت تک تعاون ملتار ہا اور جو نبوت ملنے کے بعد نبوت کے کام میں اپنوں کی دشمنی اور ایذ ارسانی کو ناقابل برداشت حد تک پہنچنے سے بچانے میں معاون رہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ کو بفضل الہی

ایک نہایت سمجھدار اور باہمتو ہمدرد صفت اہلیہ بھی میں، جنہوں نے آپ ﷺ کا مشکلات کے موقعوں پر بہت ہمدردانہ ساتھ دیا لیکن رب العالمین نے دونوں کی طرف سے حصول ہمدردی کے اس مرحلہ میں کچھ عرصہ رکھنے کے بعد اس تعاون کی سہولت بھی آپ ﷺ سے ہٹالی کہ آپ ﷺ اس سے بھی مستغنى ہو کر اپنی راہ بنائیں اور اپنے خدا کی مدد پر انحصار کرتے ہوئے اب آپ ﷺ صرف اپنے رب کی نگہبانی میں ہی مسئلے حل کریں، جس نے یہ عظیم ذمہ داری ڈالی ہے اس کی طرف سے مدد ہوتی رہے گی لیکن صبر و ہمت اور تنہا اپنے رب پر بھروسہ کا ثبوت دینا ہوگا، چنانچہ آپ ﷺ نے دعوت کے کام کی خاردار را ہوں پر چلتے ہوئے نبوت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں صرف دس سال گزارے تھے کہ مذکورہ بالا دونوں مشققانہ و ہمدردانہ تعاون کے سہارے بھی ختم ہو گئے، خت آزمائش کے کئی موقعوں پر ایسے میں آپ ﷺ کی شخصیت و صفت برداشت اس عظیم معیار کے مطابق ظاہر ہوئی، اگر نہ ظاہر ہوئی تو شاید برداشت سے باہر ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو نبوت کے اس عظیم منصب پر فراز کرایا تھا جس میں مشکل سے مشکل حالات کا بخوبی مقابلہ کرنے کی طاقت عطا کی تھی لہذا مکہ کے کافر آپ ﷺ کو اور مسلمانوں کو اتنی ایسا پہنچاتے تھے کہ برداشت سے باہر ہو جاتا تھا یہ آپ ﷺ کی تربیت اور تسلیم صبر کے نتیجہ میں تھا، ان کی اس ایذا رسانی سے بعض بعض کی موت تک واقع ہوئی ہے، خاص طور پر جو فرادر قریشی خاندان کے نہ ہوتے یا غلام ہوتے ان کو حد سے زیادہ ایذا برداشت کرنا پڑتی، جیسے حضرت بلاں رضی اللہ عنہ کے سلسلہ میں آیا ہے کہ گرم پتھر پر لٹائے جاتے تھے اور گرم پتھر سے ان کے جسم کو داغا جاتا تھا کہ وہ، وہ نہ کہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیکن وہ عزیمت کے پیکر تھے ”احداحد“ یعنی خدا تو ایک ہی ہے خدا تو ایک ہی ہے“ کہتے، اور عقیدہ توحید سے روگردانی نہ کرتے خاندان یاسر کے افراد کو تو اتنی ایذا دی جاتی کہ لوگوں کو دیکھنا مشکل

ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی طرف کسی وقت گزر ہوتا تو آپ ﷺ فرماتے ”صبرا بیا آل یاسر موعد کم الجنۃ“ اے یاسر کے خاندان والوا! صبر کرو تم کو جنت ملے گی،”حضرت یاسر ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ صرف برداشت کرنا ہے بدلہ نہیں لینا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی تربیت و تعلیم اور اخلاق و محبت کی اثر انگیزی آپ ﷺ کے رفقاء کے لئے ان ایذا رسائیوں میں صبر و ہمت پیدا کرتی تھی آغاز اسلام سے ۲۳ ارسال تک کی یہ مدت اسلامی دعوت و ایمانی تربیت کے ساتھ اسی صبر و برداشت میں گذری۔

ایک موقع پر ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب تو برداشت سے زیادہ ہو گیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا ابھی سے تم بے قرار ہو گئے تم سے پہلے کی امتوں پر ایسے ایسے حالات گزرے کہ ان کے بدن لو ہے کی گنجیوں سے نوچے گئے اور انہوں نے صبر کیا، صبر کرو تم اطمینان رکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم غالب ہو گے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی گندگی ڈال دی جاتی تھی کبھی دوسرا قسم کی ایذا میں پہنچائی جاتی تھیں کبھی راستہ پر کانٹے بچھائے جاتے تھے اور ایک موقع پر ابو جہل جو آپ کا بڑا مخالف تھا آپ ﷺ کے ساتھ بڑی ایذا رسائی سے پیش آیا آپ ﷺ کو بہت تکلیف ہوئی لیکن آپ ﷺ نے کچھ نہیں کیا، تھوڑی دری میں آپ ﷺ کے پیچا حضرت حمزہ ﷺ کو معلوم ہوا وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بھتیجے کے ساتھ بدسلوکی سن کر غصہ آگیا اور جا کر ابو جہل کو زد کوب کیا اور کہا کہ ہمت ہو تو ہمارے ساتھ کرو اور جوش میں آ کر مسلمان ہو گئے اور اسلام و مسلمانوں کی تقویت کا باعث بنے، اور ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ اپنے ساتھیوں کی طرح اسلام دشمن بنے ہوئے تھے اور خاندان میں سخت دل مشہور تھے، کہنے سننے میں جوش میں آگئے اور کہنے لگے کہ ابھی جا کر محمد ﷺ کا

کام تمام کر دیتا ہوں تاکہ قصہ ختم ہو، چنانچہ وہ لوگوں کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے نکلے لیکن راستہ میں اپنی بہن کے گھر سے گزرے اور ان سے الجھے اور بہن کو مارا بھی پھر شرم آئی اور بات بنانے کے لئے کہنے لگے کہ اچھا وہ قرآن دکھاؤ جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ہے، اس کو پڑھنے پر دل پر اثر پڑا اور ان کی ترغیب پر مسلمان ہونے کی نیت کر لی، اور اپنے برے ارادہ سے باز آگئے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے اس تیرہ سالہ ابتدائی دور میں صرف صبر کرنے کا حکم تھا، فرمایا "كُفُوا أَيْدِيْكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ" اپنے ہاتھوں کو تھامے رکھو اور نماز قائم کرو یعنی رجوع الی اللہ اور دعا، عبادت سے قوت حاصل کرو، ایذ ارسانیوں کو برداشت کرو، انتقام نہ لو، چنانچہ تمام مسلمانوں نے اس حکم کی بجا آوری پوری اطاعت و اخلاص سے کی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلمانوں نے ایمان اور اطاعت الہی کے راستے میں ہر طرح کی قربانی کے جذبہ کی تربیت حاصل کر لی، یہ ۱۳۱ سالہ دور مسلمانوں کے ایمان اور حق کے لئے ہر طرح کی قربانی برداشت کرنے کی تربیت کا دور تھا اور یہ دراصل ان کی اس غیر معمولی تربیت کا دور رہا جس کے بعد ان کو اپنے دین و ایمان کے لئے کسی طرح کی قربانی دینے میں تردیدیا بے ہمتی دکھانے کی کمزوری باقی نہیں رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسی جماعت بننا تھا جو اللہ کے لئے اپنی جان و مال قربان کرنے میں کوئی جھگٹ نہ رکھتی ہو، اور یہ بات اس امتحانی و تربیتی دور سے گذر نے پر مسلم معاشرہ کو بخوبی حاصل ہو گئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس سلسلہ میں سب سے زیادہ معیاری تھی مکہ کی زندگی میں وشمنانِ اسلام کا اصل نشانہ وہی رہے، آپ ﷺ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے آتے اور وشمنوں کی طرف سے سب و شتم سنتے اور نماز پڑھ کر خاموشی سے واپس چلتے ذرا مشتعل نہ ہوتے، آپ ﷺ کے کانڈھوں پر اوجھڑی بھی ڈالی گئی جس

کے اثر سے سجدہ سے اٹھنا مشکل ہو گیا، صاحبزادی صاحبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا تو انہوں نے آکر اس گندگی کو ہٹایا، راستے میں کانے بچھائے جاتے، آپ ﷺ یہ سب خندہ پیشانی سے برداشت کرتے، آپ ﷺ کی دو صاحبزادیوں کو جواب الہب کے بیٹوں کی بیویاں تھیں الہب نے اپنے بیٹوں پر زور ڈال کر طلاق دلوادی، اور ایک موقع پر قریش کے سب سردار ابوطالب کے پاس پہنچ اور ان سے سخت انداز میں کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکیں ورنہ وہ لوگ کارروائی کریں گے، ابوطالب پریشان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے! قوم کے سردار میرے پاس آئے تھے اور تمہارے سلسلہ میں منع کرنے کے لئے کہہ رہے تھے، میں بوڑھا ہو گیا، مخالفت زیادہ نہیں جھیل سکتا، مجھ پر حرم کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا کہ رعایت اور خیال کرنے والے چچا بھی اب ہمدردی سے منھ موڑ رہے ہیں آپ ﷺ کو اپنے چچا سے ان کی ہمدردی اور شفقت طویل عرصہ سے مسلسل ملنے کی وجہ سے ان کی یہ مغدرت بہت محسوس ہوئی، لیکن دین کا معاملہ تھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اس کو تو نہیں چھوڑ سکتا خواہ یہ لوگ سورج و چاند توڑ لائیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دیں، یہ فرمایا آپ ﷺ کو لوٹنے لگے، چچا کی اس مغدرت سے آپ ﷺ کی آنکھوں میں آنسو آگئے، چچا نے دیکھا ان کے دل پر اثر پڑا چنانچہ آواز دی بلایا اور کہا جاؤ تم کو نہیں چھوڑوں گا، خواہ یہ لوگ کچھ کہیں تم اپنا کام کرتے رہو، ایسی محبت و ہمدردی والا چچا لیکن جب ابوطالب کا انتقال ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کلمہ توحید کہنے کے خواہش مند ہوئے کہ آپ اتنا کہہ دیں باقی کے لئے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا، لیکن انہوں نے قوم کی تقید کے ڈر سے کلمہ پڑھنے کا عمل نہیں کیا، اگرچہ حضرت عباس ﷺ نے یہ محسوس کیا کہ خاموشی سے انہوں نے وہ کلمہ پڑھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے نہیں سنا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا لیکن دین کے بد لئے کے لئے ان کی مرمت نہیں کی، اور نہ جبر سے کام

لیا، کبھی اسلام کے حوالہ سے ابوطالب کے لئے توقع کا کوئی لفظ کہا اور اپنے والدین کے لئے دین کے معاملہ میں بھی کوئی ایسی بات نہیں فرمائی، آپ ﷺ کی وہ ایمانی شان بھی جو آپ ﷺ کے رسول آخر الزماں کے مقام کے لائق تھی کہ کوئی کتنا ہی محظوظ اور عزیز ہوا اسلام کے تقاضے کے خلاف کوئی رعایتی لفظ نہیں فرمایا، خواہ دنیاوی تعلق کیسا قریب اور خاندانی ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی زندگی میں کفار کی طرف سے ایذا رسانی اور اس کے لئے برداشت کے سلسلے میں جو سخت آزمائشی موقع پیش آئے ان سے ڈھنی پریشانی بھی بہت ہوتی، اور ابوطالب کے ندر ہنے سے بعض سنگین خطرات کا اندر یہ نہ بھی بڑھ گیا، اس صورت میں آپ ﷺ کو خیال آیا کہ مکہ کے ہمسر شہر طائف کی کسی بزرگ شخصیت کی انسانی ہمدردی اگر حاصل ہو جائے تو دعوت کے کام میں خطرات کی کمی ہو سکتی ہے، یہ صورت اس لئے بھی مناسب معلوم ہوتی کہ ایک ہی وقت میں آپ ﷺ کے پیچا اور آپ ﷺ کی اہمیہ دونوں آپ ﷺ سے جدا ہو گئے تھے اور آپ ﷺ کو کسی مضبوط شخصیت کی ہمدردی و تعاون کے حصول کی ضرورت محسوس ہوتی تھی جس کی بنابر، اور آپ ﷺ کی نظر طائف پر پڑی جہاں اس علاقے کی بااثر خاندانی شخصیتوں میں کئی ایک تھیں آپ ﷺ نے وہاں جا کر ان سے بات کرنے کا ارادہ کیا اور بر وقت سفر کر کے وہاں تشریف لے گئے اور وہاں کے تین سربراہوں میں سے کسی ایک کی حق کی خاطر ہمدردی و حمایت چاہی، لیکن خدا کو یہاں بھی آپ ﷺ کے عزم و استقامت اور صبر و برداشت کو ہی مقدم رکھنا تھا لہذا ان سے ہمدردی نہیں ملی اور انہوں نے مسافروں کے ساتھ کیا جانے والا عربی اخلاق بھی آپ ﷺ کے ساتھ نہیں برتا، اور قریش کے مخالفانہ رویہ کو بنیاد بناتے ہوئے آپ ﷺ سے ہمدردی کرنے کو مسترد کر دیا بلکہ عام انسانی اخلاق کے بر عکس شہر کے اوباش لوگوں کو پھر مارنے پر لگا دیا جس سے آپ ﷺ کے قدم مبارک لہو لہاں

ہو گئے، پر دلیں میں اور ایسی بے بسی کی حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو خصوصی رحم آیا اور خصوصی مدد کی پیشکش ہوئی اور حضرت جبریل صلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و آله و سلم پیغام لائے کہ زلزلہ کے ذریعہ ان ظالموں کو سخت سزا دی جاسکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و آله و سلم نے عبدیت کے اعلیٰ معیار کو ترجیح دی سزادینے کی فرماش نہیں کی اور اپنی دعائیں صرف اپنی بے بسی کے اظہار کے ساتھ حق کے لئے صبر و برداشت اور اپنے رب کی خوشنودی ہی پر اکتفا کرنے کو اختیار کیا جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و آله و سلم کی اس دعا کے الفاظ سے ہوتا ہے جو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و آله و سلم نے ادا فرمایا۔

دوسراموقع وہ آیا جب آپ صلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و آله و سلم کے خاندان نے آپ صلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و آله و سلم کی جان ہی لے لینے کا منصوبہ بنایا، اپنے بااثر مشق پچا کے فوت ہو جانے کے بعد ہی سے آپ صلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و آله و سلم کے قبیلہ کے جانی دشمن حضرات مزید بیباک اور ظالم ہو گئے تھے، اب انہوں نے اس منصوبہ کو ایک رات انجام دینے کا پروگرام بنایا ان کے اس مصمم ارادہ قتل اور اس کی کھلی ہوئی کوشش کے علم میں آنے پر جس کی اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و آله و سلم کو ملی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و آله و سلم نے اپنے رب کی اجازت سے رات کے اندر ہیرے میں وطن عزیز کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور مدینہ منورہ کا سفر فرمایا جہاں کے لوگ پہلے سے ہمدردی اور تعاون کا یقین دلا چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و آله و سلم کے وطن عزیز چھوڑ کر وہاں منتقل ہو جانے پر انہوں نے پورا تعاون بھی دیا، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد پہلے اس شہر کے لوگوں کی ہمدردی سے مستفید ہونے لگی تھی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں آجائے سے مسلمانوں کی اپنی ایک جمیعت اور سوسائٹی قائم ہو گئی، جو باختیار زندگی کی سہولت رکھتی تھی، اور اپنا خود اختیاری نظام قائم کر سکتی تھی، لہذا یہاں سے مسلمانوں کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و آله و سلم کا اور آپ کی زندگی کا یہ نیا مرحلہ بھی راحت و عیش کا نہ تھا، یہ نیا مرحلہ بھی آزمائشوں اور مشکل حالات سے گزرنے اور ایمان و یقین اور حکمت و صبر کی

صفات کے ساتھ اس نظام زندگی کی دشواریوں سے گزرنے اور اس کے لائق حکمت عملی اختیار کرنے کا مرحلہ تھا، پہلا مرحلہ جو مکہ کا تیرہ سالہ مرحلہ تھا زندگی کی انفرادی مشکلات اور عزیز واقارب کی عدا تو اور ایذا رسانیوں کو پوری سیر چیشی کے ساتھ برداشت کرنے میں گزرا، ایمان و عزیمت، دعوت و تبلیغ اور مکارم اخلاق کا تھا جس میں ظلم کا جواب دینے یا اس کا انتقام لینے کی اجازت نہ تھی، اب نئے مرحلہ میں دعوت کے مقصد کو سینے سے لگائے ہوئے اجتماعی زندگی کو مرتب کرنے اور اس کے معاملات کو دین حق کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے انجام دینا تھا، اور عزیز واقارب کے دائرہ سے آگے بڑھ کر مختلف النوع افراد اور جماعتوں اور مخالفوں سے معاملہ تھا، یہ نظام زندگی بھی اپنی الگ نوع کی مشکلات رکھتا تھا، اور اس میں اجتماعی زندگی کے بھی چیلنج سامنے آرہے تھے، جن کا مقابلہ بھی کرنا تھا اور جواب بھی دینا تھا، مکہ کی زندگی میں مسلمان مغلوب اور کمزور تھے، لیکن آپ ﷺ ایمان و عمل میں پختہ اور ناقابل شکست ہمت و عزیمت کے مالک تھے، مقابلہ میں کمزوری اور برداشت کے ساتھ عقیدہ و عمل میں ہمت و عزیمت کو بہت صبر و حکمت کے ساتھ جمع کئے ہوئے تھے، اب مدنی زندگی میں کمزوری کی جگہ اجتماعی طاقت حاصل ہو گئی تھی، اس کی بنابر اپنے دشمنوں سے اجتماعی سطح پر معاملہ رکھنا تھا، اور ان کی دشمنی پر مناسب رد عمل ظاہر کرنا تھا، اس طرح سے ان نئے حالات میں نئے اسلوب و طریقہ سے ہمت و عزیمت کو اختیار کرنا تھا، سابقہ صورت حال بدل جانے کی دشواریوں میں تبدیلی نہیں آئی البتہ اب دشواریوں کا طرز دوسرا ہو گیا، اب اجتماعی نظام زندگی میں ابھرنے والی مشکلات سامنے آئیں جن کے لئے ہمت و عزیمت اور صبر و حکمت کی اسی طرح ضرورت باقی رہی جو پہلے تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اس کے مطابق چلایا اور نظام زندگی کو نئے تقاضوں کے مطابق بنایا اور مشکلات کے مقابلہ میں صبر و عزیمت کا پوراثبوت دیا۔

مسلمانوں پر اب ان کے دشمن سلح اجتماعی طاقت سے حملہ آور ہوتے اور آپ مسلمانوں کے ساتھ ان کا اسی کے مطابق مقابلہ کرتے، پھر خود شہر کے اندر اجتماعی زندگی میں انفرادی مخالفانہ جذبات و عزائم جو دشمن فرقے یہودیوں کی طرف سے اور منافقین کی طرف سے پیش آئے ان کو جھیلتے اور ان کے سلسلہ میں مناسب روایہ اختیار کرنے کا عمل نہایت تحمل کے ساتھ کبھی برداشت کے ساتھ کبھی جرم و حرم کے ساتھ اختیار کرتے۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہایت اعلیٰ اور جامع انسانی صفات عطا فرمائی تھیں، ایسی صفات کہ جن سے اپنے معاشرہ میں زبردست وقار قائم ہوا، اور پُر ہمت اور پُر عزیمت تقاضوں میں جن سے معاشرہ کے معاملات پڑسکتے تھے، اس میں ہمت و عزیمت کے لحاظ سے کوئی کوتاہی بھی نہیں کی، اور اعلیٰ مقصد کے لئے اپنے عزیز اور قدرداروں سے کسی بھی اختلاف ہونے پر کریمانہ بر تاؤ ہی اختیار کیا۔

زندگی کے مختلف مراحل میں جیسا جیسا تقاضا پیدا ہوا، اس کو اعلیٰ اصول اور مقصد بلند کے بنوجب ذمہ داری بخوبی انجام دی، زندگی کے شعور کا زمانہ جو عموماً انسان کے چھ سالہ عمر سے شروع ہوتا ہے، آپ ﷺ کے لئے حالات بالکل ناسازگار تھے، مال باپ دونوں سے محرومی ہو چکی تھی، لیکن آپ ﷺ نے اپنی شخصیت کی تعمیر میں اس کو اثر انداز نہیں ہونے دیا، اور قریب تر اعزہ سے جو محبت مل سکتی تھی اسی سے کام چلایا، آغاز جوانی تک اپنے شریفانہ اخلاق کو اپنے پورے معاشرہ میں تسلیم کرالیا، اور عملی زندگی میں معاش کی ضرورت کو شریفانہ انداز میں پورا کیا اور عالمی زندگی بھی اپنے معیار سے شروع کی، اور بیوت کی ذمہ داری ملنے پر اس کے اعلیٰ تقاضوں کو بخوبی پورا کیا، اور اس سلسلہ میں جو مصالح پیش آئے خندہ پیشانی سے گوارا کیا، بالآخر مخالفوں نے آپ ﷺ کی

زندگی ہی کو جب ختم کرنے کا تھیہ کر لیا تو نقل مکانی کی اور نیا دور شروع کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے خصوصی نظام کے تحت انجام پایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا  
قَلَىٰ ۝ وَلَلآخرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝ وَلَسُوفَ  
يُعَطِّيكَ رَبُّكَ فَتَرْضِيٰ ۝ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًاً فَأَوْيَ ۝  
وَوَجَدَكَ ضَالًاً فَهَدَىٰ ۝ وَوَجَدَكَ عَائِلًاً فَأَغْنَىٰ ۝ فَأَمَّا  
الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهِرُ ۝ وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرُ ۝ وَأَمَّا بِنْعَمَةٍ  
رَبِّكَ فَحَدَّثُ ۝ (سورۃ الحلق)

جس کا مجموعی مفہوم حسب ذیل ہے:

اس سورہ میں دن کے آغاز اور رات کے سکون کے حوالے سے کہ جو انسان کے دن کے حرکت و عمل اور پھر رات کے آرام اور سکون کے مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، فرمایا گیا کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑنہیں دیا ہے، نظر انداز نہیں کر دیا ہے اور نہ اپنی پسند سے ہٹایا ہے، البتہ آخرت کا معاملہ آپ کے لئے اس زندگی کے معاملہ سے زیادہ بہتری کا ہے، اور آپ کو عنقریب آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کے لئے ٹھکانہ کا انتظام کیا، اور آپ کو گم گشتہ راہ پایا تو آپ کو صحیح راہ پر ڈالا، اور آپ کو معاشی لحاظ سے دوسروں کا دست نگر پایا تو آپ کو مستغنی اور خود کفیل کر دیا، اب اس کا آپ خیال رکھیں کہ

یتیم پر سختی نہ کریں، اور مانگنے والے کو جھپڑ کیں نہیں اور آپ پر آپ کے رب کے جو احسان ہیں (یعنی نبوت کا احسان اور دوسرے احسان) اس کا آپ تذکرہ کریں اور لوگوں کو بتائیں (یعنی ان کو راہ حق کی طرف متوجہ کریں)۔

مکہ مکرمہ میں جب دشمنی برداشت کرنے میں حد سے بات آگے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم سے مدینہ منورہ منتقل ہوئے لیکن مکہ کے دشمنوں نے آپ ﷺ کے مدینہ چلنے پر بھی آپ ﷺ سے دشمنی ترک نہیں کی اور باقاعدہ جنگ کے حالات پیدا کرنے لگے، چنانچہ یکے بعد دیگرے مسلمانوں پر جنگ مسلط کی پہلی جنگ کفار قریش نے تین سو کیلو میٹر کا فاصلہ طے کر کے مدینہ منورہ سے صرف ڈیڑھ سو کیلو میٹر کے قریب پہنچ کر اور دوسری جنگ ساڑھے چار سو کیلو میٹر طے کر کے مدینہ طیبہ پہنچ کر کی، اسی طرح جنگیں ہوتی رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمت و تدبر سے اور اعلیٰ انسانی کردار کے ساتھ مقابله کرتے رہے، مدینہ منورہ میں یہود کی ایک تعداد بھی تھی جن سے آپ ﷺ نے معاہدہ کیا تھا، لیکن اندر سے یہود نے کفار مکہ سے سازش کی جس کے ثابت ہونے پر معاہدہ کی خلاف ورزی کی بنا پر ان کے خلاف بھی کارروائی کرنی پڑی، یہ سب ایسی حکمت و تدبر سے آپ ﷺ نے کیا کہ اس میں عقل و حکمت، انسانیت و شرافت دوست و دشمن کا لحاظ اور مکانہ انسانی رعایت سب کی اعلیٰ مثالیں ملتی ہیں، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے چاروں دور، بچپن سے لے کر جوانی تک جوانی سے نبوت کے ملنے تک اور نبوت کا کمی دور اور پھر مدنی دور، یہ سب اعلیٰ کردار، نیک نفسی، سمجھداری، زندگی کے تقاضوں کو مناسب انسانی اصولوں کے مطابق پورا کرنے، پھر معاشرہ کے تعلقات اور روابط اور پھر منفی و ثابت دونوں حالات کامناسب ڈھنگ سے حق ادا کرنے اور دوست و دشمن کے ساتھ الگ الگ

لیکن شریفانہ انسانی کردار کے دائرة میں رہتے ہوئے معاملہ کرنے کے، ایسے غیر عتمدی اور مثالی نہ نہیں پیش کئے گئے کہ غور کرنے عقل دنگ رہ جاتی ہے، ان مثالوں کو اگر وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے تو چند سطریں نہیں کتاب کی جلدیں چاہئیں، ہم کو سیرت کا مطالعہ اس کے مختلف حالات کے مذکورہ پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا چاہئے تو ہمارے سامنے ایک عظیم دنیاۓ انسانیت کھل کر سامنے آتی ہے، اور مسلمان کے لئے زندگی کے ہر مرحلہ میں اور ہر طرح کے حالات میں یہ باتیں اعلیٰ نہ نہیں ہیں اور ان کو نہ نہیں بنانے کا قرآن مجید میں بھی حکم آیا ہے، ارشادِ ربانی ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ  
كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝

(سورہ الحزاب: ۲۱)

”تم لوگوں کے لئے یعنی ایسے شخص کے لئے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہوا اور کثرت سے ذکرا ہی کرتا ہو رسول اللہ کا ایک عمدہ نہ نہیں ہے۔“

مددیۃ منورہ میں اپنے ماننے والوں کی اکثریت اور سازگار ماحول قائم ہو جانے سے دین پر اسلام کے تقاضوں کے مطابق اجتماعی و معاشرتی زندگی قائم کرنے کی سہولت حاصل ہوئی اور دین حق کی دعوت زیادہ وسیع طریقہ سے پہنچانے کا موقع ملا، اس طریقہ سے مکمل دین حق کو انفرادی و اجتماعی زندگی میں قائم کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی رہنمائی میں اور اپنے نبوی طریقہ کار سے اعلیٰ انسانی اور ربانی خصوصیات کا معاشرہ تیار کیا جس کے اقدار اور طریقہ ہائے عمل صرف معین ہی نہیں کئے بلکہ ان کی تربیت دی جس میں اعلیٰ اخلاق، معیاری انسانی کردار، ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیرخواہی اور حق کے راستے سے بھٹکے ہوئے انسانوں تک کو دین و آخرت کی

کامیابی کا پیغام پہنچایا، اور محدود دائرہ سے نکل کر وسیع تر پورے ملکی دائرے بلکہ مزید عالمی دائرہ تک انسانی صلاح و فلاح کا پیغام پہنچانے کا کام شروع ہو گیا۔ اس کے لئے یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ غزوہ بدر جو کہ جنگ اور جہاد کا پہلا واقعہ ہے۔ ۱۳ ارسال کی مکی زندگی میں مسلسل اور سخت سے سخت تکلفیں جھیلنے اور ظلم و تشدد برداشت کرنے اور یک طرفہ صبر و برداشت کا ثبوت دیتے ہوئے بالآخر وطن و مال و متاع کو خیر باد کہہ کر منتقل ہو جانے پر مجبور ہونے کے بعد پیش آیا، مکہ کی ۱۳ ارسالہ مدت میں مسلمانوں کو مشرکین مکہ کی طرف سے کئے جانے والے ہر ظلم کو برداشت کرتے رہنے کی تلقین کی گئی تھی، جس کا ذکر گز شستہ صفحات میں گزر چکا ہے وہ یہ کہ ”اپنے ہاتھروں کے رکھو اور نماز قائم کرتے رہو“ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا ایک ذرہ بھی انتقام یا مقابلہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا اور صرف اپنی اصلاح اور دوسروں کو نصیحت پر اتفاقاً کرتے رہے، لیکن جب وطن چھوڑ کر پر دیں میں مقیم ہو جانے پر بھی ظلم و زیادتی وہاں تک پہنچانے کی کوشش ہونے لگی تو مسلمانوں کو اجازت ملی کہ وہ اپنے کو منظم کر کے مقابلہ کر سکتے ہیں، چنانچہ دشمنی کا جواب دینے کا یہ پہلا موقع تھا، جو بدر میں پیش آیا، وہ محض اللہ کے بھروسہ پر میدان جنگ میں آئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد آئی، فرشتوں نے باقاعدہ جنگ میں شرکت کی اور مشرکین کی فوج کو کھلی شکست ہوئی اور مسلمانوں کو ۱۳ ارسال کی مشقوں کا پہلی بار صلہ ملا، یہ صدیقین خصوصیات کا حامل تھا۔

پہلی خصوصیت تو یہ کہ ۱۳ ارسال تک تکلیف دہ حالات میں بھی اعلیٰ کردار اور انسانیت نوازی پر قائم رہے، اور محض حکم الہی کی تعییل میں سخت سے سخت زیادتی کا بھی جواب دینے سے گریز کرتے رہے اور انتقامی کارروائی کے لئے حکم الہی کے منتظر رہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر پوری عمل داری میں صبر و برداشت کا ثبوت دینے کے امتحان میں وہ سو فیصد کامیاب رہے، ان میں وہ اعتماد پیدا ہوا جس نے ان کی آئندہ کی

زندگی کو جدوجہد کی راہ میں ان کے قدموں کو مضبوط بنایا اور ہمت بڑھائی، اور وہ اپنے پروردگار کے فرمانبردار بندے ہونے کے ساتھ ایک ناقابل شکست طاقت بن گئے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صبر و ثبات اور حق کے لئے جانی و مالی تکلیف اٹھانے کو قبول فرمایا اور ان کو جنت کا مستحق قرار دیا، جو نہایت غیر معمولی بشارت اور خوشخبری کی بات ہے۔

تیسرا یہ کہ دشمن کی دشمنی کا جواب دینے کی اجازت ملنے پر ان کو مقابلہ کا موقع ملا اور اس دشمن کو جو کبر و نجوت اور ظلم و تشدد میں شیر بنا ہوا تھا، مسلمانوں کے مظلوم ہاتھوں سے شکست ہوئی اور دشمن کے سامنے اپنے کوسر بلند کرنے اور اعتماد کے ساتھ مقابلہ کرنے کی قوت حاصل ہوئی، مسلمانوں کو اپنے دین کی عظیم قدروں کی پابندی کرنے پر ان کو بدتر کی فتح کی صورت میں مذکورہ بالا فائدے حاصل ہوئے اور وہ طاقتور اور پروقارامت ہوئے، پھر وہ دشمنوں کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ کرتے ہوئے،<sup>۱۸</sup> میں مکہ مکرہ میں فاتحانہ داخل ہونے کے لائق ہوئے اور یہ فتح انہوں نے بغیر جنگ اور بغیر فوج کشی کے حاصل کی، اور انہوں نے دیکھا کہ اعلیٰ قدروں پر قائم رہتے ہوئے اعلیٰ کردار پر عمل کرنے سے وہ کامیابی ملتی ہے جو محض طاقت کے انحصار سے نہیں ہوتی۔

سیرت کا پورا جائزہ لینے سے یہ بات صاف اور نمایاں نظر آتی ہے کہ انسانی معاشرہ کے بھٹکتے ہوئے معاشرے کو راہ حق پر لگانا اور انسان کو حیوانی بھٹکتی ہوئی راہوں سے ہٹا کر اپنے خالق و مالک کے احکام کی تابعداری اور شریفانہ انسانی کردار آپسی انسانی ہمدردی اور انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے لائق صفات و اخلاق اختیار کرنے کی دعوت اور اس کے لئے انھک کوشش مقصد بنی ہوئی تھی اور سیرت کا مطالعہ کرنے والے کو سارے واقعات اسی کے گرد گردش کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ مقابلہ و جنگ بہت محدود اور اعلیٰ انسانی اخلاق کے دائرہ کے اندر

رہتے ہوئے کی گئی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات اور حالات آپ ﷺ کے رب کی طرف سے ایسے تشکیل دیئے گئے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے زندگی کے ہر موڑ اور ہر صورت حال میں ان سے نمونہ مل سکے، اس کے لئے ایسے نمونے رہتی دنیا تک مہیا کئے جانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقتوں سے بھی گزارا گیا، شخصی نقصانات سے بھی گزارا گیا، تکلیف و مشقت اور راحت و سرت دونوں طرح کے حالات سے گزارا گیا، اس طرح آپ ﷺ کی حیات طیبہ ساری انسانی برادری کے لئے اعلیٰ مثال بھی ہے اور تعلیم و تربیت اور حق کی رہنمائی کا بہترین اور اعلیٰ ذریعہ بھی ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم تسليماً کثیراً کثیراً

آپ ﷺ پر ہزاروں درود و سلام ہو، کہ امت کے فائدہ کے لئے اور رہنمائی کے لئے آپ ﷺ کو سب تکلیفیں اٹھانی پڑیں اور اعلیٰ صبر و رضا اور وسیع القلی کا ثبوت بھی دینا پڑا۔

---

## حضرور اکرم ﷺ سے محبت تکمیل ایمان کے لئے لازمی

حضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلِيْدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" کہ کسی مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کی محبت سے بھی زیادہ نہ ہو جو اس کو اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر صاحب ایمان کے لئے لازمی اور ضروری بن گئی ہے اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے بعد سب سے بڑا احسان تمام مسلمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، انہوں نے زندگی کو اپنے حقیقی مالک اور پروردگار کی مرضی کے مطابق گذارنے کا طریقہ بتایا، پھر اس کی تربیت دی، آخرت میں کامیابی کا طریقہ بتایا جس سے ہر انسان کو مرنے کے بعد سابقہ پڑنا ہے اور یہ سابقہ چند گھنٹوں یا چند دنوں یا چند مہینوں کا نہ ہوگا بلکہ ابد ال آباد کی اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا ہوگا، ہماری یہ دنیا کی زندگی تو بہت مختصر زندگی ہے، اس میں بچپنے کا زمانہ نکال دیا جائے تو عام طور پر پچاس سال کے نیچے ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی نہ ختم ہونے والی کروڑوں اور اربوں سال سے بھی زیادہ کی زندگی ہوگی، اس زندگی میں کامیابی، راحت اور فتح حاصل کرنے کا گور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی

معلوم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گرایا بتایا کہ دنیا کی یہ محدود دمۃ کی زندگی بھی تکلیف میں نہ گزرے اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کی راحت و نعمت بھی حاصل رہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مفید رہبری صرف زبانی طور پر کر کے ختم نہیں کر دی بلکہ اس کے سکھانے اور بتانے کے لئے آپ ﷺ نے تمیں سال عام انسانوں کے ساتھ زندگی گزاری اور ان کو پیش آنے والے سب دکھ سنکھ میں شریک رہے اور ان کے سامنے اپنے مالک اور پروردگار کی پسند کا طریقہ بتاتے اور دکھاتے رہے کہ خوشی میں آدمی کو کیسا ہونا چاہئے اور غم کی حالت میں کیسا ہونا چاہئے، دولتمندی میں کیسا ہونا چاہئے اور فقر و فاقہ کی حالت میں کیسا ہونا چاہئے، ان تمام باتوں اور طریقوں کو بتانے بلکہ کر کے دکھانے میں آپ ﷺ نے کم از کم تیس سال فکر مندی اور برداشت میں گذارے، ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس لئے کیا کہ آپ ﷺ کو اپنی امت کی فکر تھی کہ اس کی آخرت بھی اچھی ہو اور دنیا بھی اچھی گذرے، ورنہ آپ ﷺ خدا کے ایسے محبوب بندے تھے کہ خدا ان کی زندگی کو محض راحت و نعمت کی زندگی بنادیتا جس کی بناء پر وہ بہت آرام اور آسودگی کے ساتھ رہتے اور اپنی امت کو صرف وعظ و نصیحت سے نوازتے رہتے لیکن خدا نے یہ چاہا کہ انسانوں کے سامنے اس کی اطاعت و عبادت اور نیک انسانوں کے سامنے اس کی اطاعت و عبادت اور نیک عمل اختیار کرنے کا پورا پورا نمونہ آئے، خواہ اس کے لئے اس کے محبوب بندے کو تکلیف اٹھانا پڑے اور اللہ نے پھر اس نیک بندے کا دل بھی ایسا بنادیا کہ وہ اپنی امت کو ہمیشہ یہیں کی خوش حالی اور کامیابی دلانے کے لئے اپنے سب آرام و راحت کو چھوڑے ہوئے تھے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کی اسی صفت کا حال اس طرح بتایا ہے کہ:

”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّجِيمٌ“ (سورہ توبہ۔ ۱۳۸)

”بیشک ایک رسول تم میں سے تمہارے پاس آیا جس کو گوارہ نہیں کہ تم پر یشانی اور تکلیف میں پڑا اور وہ تمہارا بڑا دھیان اور فکر کئے والا ہے اور مسلمانوں کے لئے تو بہت شفقت اور محبت والا ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت و شفقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے افراد سے ہے، اتنی زیادہ تھی کہ اس کے مقابلہ میں ماں باپ کی محبت جوان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، کم رہ جاتی ہے، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے مسلمانوں کی محبت اس سے زیادہ ہونا چاہئے جتنی ان کو اپنے باپ اور بیٹے اور سارے کنبہ سے ہوتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درست اور کامیاب بنانے کے لئے ہر طرح کی فکرمندی اور توجہ سے کام لیا، ایک موقع پر آپ ﷺ نے اس کو اس طرح بتایا کہ ”میرا تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ ایک آگ لگی ہو اور تم نادانی میں اس میں کوئے جارہ ہے ہو اور میں تم کو پکڑ پکڑ کر اس سے دور کر رہا ہوں“، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنی راحت کی قربانی اس لئے تھی کہ اپنی امت کو بھی کسی طرح سے اس آگ سے بچالیں جو خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کی صورت میں آخرت میں ملے گی اور پھر آپ ﷺ نے صرف اپنی جگہ بیٹھ کر آرام کے ساتھ نہیں کیا بلکہ زبانی بتایا پھر خود کر کے دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے یہ سب باتیں سامنے آتی ہیں۔

آپ ﷺ کے ایک نواسے کا انتقال ہونے لگا تو آپ ﷺ کی صاحبزادی نے آپ ﷺ کو بلوایا کہ بچہ کا آخری وقت ہے، ذرا آجائیے آپ ﷺ تشریف لے گئے، بچہ گود میں لیا، اس کی جانکنی کی حالت تھی، شفقت بھرے نانا کی آنکھوں میں آنسو آگئے، ایک صحابی موجود تھے، کہنے لگے آپ ﷺ بھی ایسے متاثر ہوتے ہیں، فرمایا کہ میں انسان

ہوں، میرے دل نیں بھی محبت ہے اور اتنا بھی نہ ہو تو وہ انسان کیا، اس طرح آپ ﷺ کے خود سال اور اکلوتے صاحبزادے کی وفات ہوئی، آپ ﷺ شریف لے گئے اور دیکھ کر فرمایا میری آنکھیں نہ ہو رہی ہیں، دل غمزدہ ہے لیکن انی زبان سے صرف وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہو، اے ابراہیم تمہاری جدائی پر ہم غمزدہ ہیں، اس موقع پر سورج گر ہن ہوا لوگ کہنے لگے کہ عظیم القدر نبی کے بیٹے کے انتقال کا یہ اثر معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سناتو فرمایا کہ دیکھو یہ سورج، یہ چاند اللہ کے حکم کے تابع ہیں یہ اپنے نظام کے مطابق چلتے ہیں کسی کے مر نے جینے سے ان پر انہیں پڑتا۔ غور کیجئے، کس قدر پر عظمت بات ہے کہ ایسے موقع پر آدمی خوش ہوتا ہے کہ ہماری اور ہمارے بیٹے کی اہمیت بھی جارہی ہے ہمارے کچھ کہے بغیر خود بخود لوگ اہمیت دے رہے ہیں، اچھا ہے کہنے دیا جائے نہیں آپ ﷺ نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ کسی کے عقیدہ میں بال برابر فرق آئے اور وہ خدا کے سوا کسی اور کوآسمان وزمین، سورج چاند پر اثر ڈالنے والا سمجھے۔

یہ غم کے موقع کی مثال تھی، مسرت کے موقع کی بھی مثال دیکھئے کہ آپ ﷺ کے محبوب چحازاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب شہ کی ہجرت سے منتقل ہو کر مدینہ پہنچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مل کر بہت خوش ہوئے، اسی دوران میں مسلمانوں کی فتح کی خوش خبری پہنچی تو ایک طرف مسلمانوں کی خوشی تھی دوسری طرف اپنے محبوب اور اللہ کے لئے قربانی دینے والے مومن بھائی کی آمد کی مسرت تھی، آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں بتا نہیں سکتا کہ دونوں مسروتوں میں کون مسرت زیادہ ہے، ذرا دیکھئے اس تو ازن کو اور اعلیٰ کردار کو کہ بحیثیت قائد و امیر، مسرت کا جو موقع تھا اس کا حق ادا کیا اور اسی کے ساتھ عزیز دارانہ و بردارانہ محبت کا جو تقاضا تھا اس کا حق بھی ادا کیا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے

پدرانہ محبت بے حد تھی جس کا اظہار ہوتا تھا، لیکن مدینہ میں کسی ایک آدمی پر چوری کا جرم ثابت ہوا، وہ بڑا خاندانی اثر و سوخر کھتے تھے کسی نے سفارش کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: کہ سزا تو ملے گی، یہ بات تو ایسی ہے کہ میری عزیز بیٹی فاطمہ سے یہ حرکت سرزد ہو جاتی تو میں اس کا بھی ہاتھ قطع کرواتا، ذرا دیکھئے اس عظمت کو، بات سمجھانے کے لئے ایسی مثال دے دی جس کو زبان سے کہنے میں بھی آدمی پر اثر پڑتا ہے، لیکن حق کی بات ہو تو آپ ﷺ کوئی رعایت نہیں کرتے تھے، چنانچہ آپ ﷺ کے اوصاف میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ اس قدر زم دل اور محبت و شفقت والے تھے کہ کسی کو بھی آپ ﷺ کی ذات سے ادنی اذیت نہیں ہوتی تھی، آپ ﷺ نے کبھی کسی چھوٹے کو اور کسی خدمت کرنے والے کو نہیں مارا آپ ﷺ سے مدد مانگنے والا بعض وقت اس قدر پیچھے پڑتا کہ تنگ کر دیتا، بعض وقت یہ تک ہوا کہ آپ ﷺ کے جسم پر آپ کی چادر اس طرح سختی کے ساتھ کھینچی کہ آپ ﷺ کی گردن کی کھال میں رگڑ آگئی لیکن آپ ﷺ نے پھر بھی سخت جواب نہیں دیا، صرف یہی فرمایا کہ اس وقت دینے کو کچھ موجود نہیں، اس لئے معذوری ہے، بعض وقت اصرار کرتے ہوئے آپ کو دھکیل دیا گیا کہ آپ ﷺ کا انہوں میں جا پڑے، لیکن آپ ﷺ نے سخت رویہ یا جواب نہیں اختیار کیا لیکن جب حق کا معاملہ آ جاتا تو ایسے جوش و غصب میں آ جاتے کہ اس کا مقابلہ آسان نہ تھا۔

جب راحت کا موقع ہوتا تو اپنے اصحاب کو آگے رکھتے خطرہ کا موقع ہوتا تو خود آگے بڑھ جاتے، ایک موقع پر رات کی تاریکی میں ایسی آواز آتی کہ جس سے فکر و تشویش پیدا ہوئی، آپ ﷺ نے اپنے اصحاب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کوئی جا کر دیکھتا کہ کیا ہے؟ لیکن رات کی تاریکی اور اس وقت کی صورت حال دیکھ کر لوگ چھپکے تو آپ ﷺ نے فرمایا میں جاتا ہوں اور خود تشریف لے جا کر تحقیق ذمتوں کے واپس تشریف لائے۔

حضرور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے صلاح و فلاح والی زندگی کو بنانے اور سکھانے کے لئے اپنی زندگی کو کس طرح تنگی اور ترشی سے گزارا اور اس میں کتن مشکلات کو گوارہ کیا، آپ کا یہ حال بن گیا تھا کہ خوشی کے موقع پر اپنے اصحاب کو خوش رکھنے کے لئے خوشی کا اظہار فرماتے، ان کی خوشی میں شرکت فرماتے، لیکن آپ ﷺ کا دل امت کے لئے فکر مندی اور آخرت کی کامیابی کے دھیان کی وجہ سے ملوں اور ہر وقت فکر مند رہتا تھا اور آپ ﷺ کی دریادی اور سخاوت کی وجہ سے آپ ﷺ کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، آپ ﷺ کے پاس اتنا کم بچتا تھا کہ دو وقت کا کھانا پورا کرنا مشکل ہوتا تھا، حضرور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی امت کے مقاصد میں اپنے کو بے چین اور متفکر رکھا اور وہ اس طرح خدا تعالیٰ کے بعد اپنی امت کے سب سے بڑے محسن بن گئے، اس لئے آپ ﷺ سے محبت کرنا ہر کسی دوسرے سے محبت کرنے سے زیادہ ہونا بالکل مناسب اور شریفانہ کردار کی بات ہے اور شریعت اسلامی کی رو سے لازمی اور ضروری بھی ہے، اس کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ آپ ﷺ کی سیرت طیبہ کو اپنے لئے مثالی نمونہ بناؤ کر اس سے اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش بھی کرنا ضروری ہے، اس میں کوتا ہی اسلامی احکامات کی خلاف ورزی شمار ہوتی ہے، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ ”لَقَدْ كَانَ لِكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا“ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اور یہ اس کے لئے ہے جو اللہ سے خیر کی امید کرتا ہو اور آخرت میں کامیابی کی خواہش رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتا ہو۔

## محبت رسول ﷺ کا تقاضا

اسلام کا کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بغیر ”محمد رسول اللہ“ کے مکمل نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے ساتھ اس کے آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ جو احکام اور شریعت لائے اس کو ماننا اور اس کے حکموں پر چنان، اسلام میں حق کا راستہ یہی متعین کیا گیا ہے کہ خدا کو رب واحد مانا جائے اور اس کی طرف سے جو حکم اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس کو مانا جائے۔

ہر مسلمان کو بتایا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو انہی احکام کا پابند بنائے اور سچا اور صحیح مسلمان بنے، آج مسلمانوں میں جوانح طاط اور کمزوری آگئی ہے وہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام سے ہٹ جانے اور غفلت برتنے سے پیدا ہوئی ہے، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ:

”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝ (سورہ احزاب: ۲۱)

”کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں اچھا نمونہ ہے اور یہ

ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور آخرت کے دن کی جواب دہی کی امید رکھتا ہو اور اس نے اللہ کو یاد کیا ہو۔“

اسی طرح ہر مسلمان کی زندگی کے لئے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور طریقہ حیات کو نمونہ قرار دیا گیا ہے، جن کی پیروی ہر مسلمان پروا جب ہے ان کی پیروی دراصل اس وقت ہو سکتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہمارا دل پوری طرح جانتا اور مانتا ہو، ہم کو ان سے پچی محبت ہو، ان کی خوشی ہمارے لیے نعمت کا درجہ رکھتی ہو، اور ان کا رنج ہمارے لیے سوہان روح ہو، ہم ہر وقت یہ فکر کھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا اور کیا ناپسند، آپ ﷺ کس بات سے خوش ہوتے تھے، کس بات سے ناخوش اور یہ کہ آپ کی خوشی کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ اور آپ ﷺ کی ناخوشی کے کام سے کیسے بچ سکتے ہیں، صحابہ کرام کو جو آپ ﷺ سے محبت تھی اور جو تعلق تھا اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے یہ محبت کرا کے قیامت تک ساری امت مسلمہ کو یہ بتا دیا کہ اللہ کے اس آخری اور عظیم رسول ﷺ سے محبت کیسے کی جاتی ہے اس کی خوشی کا کام کیسے کیا جاتا ہے۔

غزوہ تبوک میں حضرت کعب بن مالک نہیں جاسکے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا تھا، لیکن گھر اور باغ کی فکر میں دریگتی چلی گئی، حتیٰ کہ جانے کا وقت نکل گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس تشریف لائے اور حضرت کعب ان سے ملنے گئے آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کعب تم غزوہ میں نہیں گئے تو حضرت کعب خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو بڑے اچھے ڈھنگ سے بات کرنے اور اپنی بات کو اپنے مطلب کے مطابق ڈھانے کی اچھی صلاحیت دی تھی، لیکن میں نے عرض کیا کہ حضور میں کسی اور کے سامنے ہوتا تو اپنے مطلب کے مطابق ڈھنگ سے بات کر سکتا تھا۔ لیکن آپ ﷺ کے سامنے صرف قصیر صحیح تھی بات عرض کرتا ہوں کہ میں

صرف اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہیں گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا انہوں نے سچی بات کہی، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نصیلے کا انتظار کرو اور آپ ﷺ نے تمام لوگوں کو حضرت کعبؓ سے بات کرنے اور ان سے تعلق رکھنے سے منع کر دیا، حضرت کعبؓ کہتے ہیں کہ اتنا ہونا تھا کہ پورا شہر میرے لیے سنائے کا ہو گیا، وہاں میرے لیے گویا کوئی آبادی نہیں رہی، میرے قریب ترین عزیز اور دوست تک مجھ سے بات کرنے کے اور میری بات کا جواب دینے کے روادرانہ رہے، یوئی تک کا یہ حال ہوا کہ وہ بھی مجھ سے بولنے اور تعلق رکھنے سے گریزاں ہو گئی، اس طرح مجھ پر چالیس دن گزرے کہ مجھ سے نہ کوئی بات کرتا اور نہ کوئی ملتا، میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے میں سلام کرتا، اور غور کرتا کہ لب مبارک میں جنبش ہوئی، میرا سلام قبول ہوا یا نہیں، میں اسی او ہیڑ بن میں وقت گزارتا رہا، لیکن اطاعت و پردوگی میں فرق نہیں آیا، شام کے پادشاہ نے مجھ کو کہلوایا کہ میرے پاس آ جاؤ، میں نے اس کے خط کو پھاڑ کر پھینک دیا کہ میں کسی بھی حال میں رہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ میرا کیا انجام ہو گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں اور ان کی وجہ سے سب فدایاں رسول بھی ناراض ہیں۔ لیکن مجھے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، میرے پروردگار نے مجھ کو جادہ استقامت پر قائم رکھا، بالآخر میں امتحان میں کامیاب ہوا، اور آسمان سے معافی آئی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ﷺ بڑھ کر مسکراتے ہوئے ملے اور فرمایا کعب تم کو مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی، یہ تھی صحابہ کرام کی محبت اور اطاعت رسول کا ایک جنبش لب سے زندگیاں بدل جاتی تھیں اور کیسا ہی سخت امتحان ہوا اطاعت و محبت میں فرق نہ آتا تھا۔

حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول تھے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ ﷺ کی دنیاوی زندگی کی راحت کے لئے بھی ہر

طرح کے سامان کر دیتا، مکہ کے پھاڑوں کو آپ ﷺ کے لیے سونے کے پھاڑ بنا دیتا، عرب کے صحراؤں کو سبزہ و گل سے بھر دیتا، اور آپ ﷺ کے لئے دنیاوی دولت کے خزانے پیدا کر دیتا لیکن ایسا نہیں کیا کیونکہ آپ ﷺ کی حیات طیبہ کو قیامت تک تمام امت مسلمہ کے لئے نمونہ بنانا تھا، نمونہ، جو نظر آئے کہ کس حالت میں آدمی کیا کرے، کس صورت حال میں معاملات کو کس طرح انجام دے، اس کے لیے ماڈی وسائل کی کمی کی حالت کا نمونہ بھی سامنے آتا تھا، تکلیف و پریشانی کا نمونہ بھی سامنے آتا تھا، شادی و غنی کے موقع کے لئے نمونہ سامنے آتا تھا، دوستوں کی دوستی اور دشمنوں کی دشمنی کے موقع کے نمونے سامنے آتے تھے، چنانچہ ہر نوع کے موقع اور ہر طرح کے معاملات کے نمونے آپ ﷺ کی حیات طیبہ میں پیدا کئے گئے اور امت اسلامیہ کو حکم ہوا کہ اپنے رسول کو دیکھو، وہ جو کہیں اس کو مانو، جو کریں اس کی نقل کرنے کی کوشش کرو، آپ ﷺ سے عقیدت و محبت کا یہ معیار بتایا گیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”لا یومن احد کم حتی اکون احب الیه من والدہ  
و ولدہ والناس اجمعین“

”کہ تمہارا ایمان اس وقت تک درست نہیں جب تک تم مجھ کو اس سے زیادہ محبوب نہ بناؤ جتنا تم کو اپنے باپ اپنی اولاد اور دنیا کے سب سے محبوب لوگ ہو سکتے ہوں،“

مسلمانوں نے یہ محبت کر کے دکھا بھی دی، حتیٰ کہ کفار تک نے یہ شہادت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں، اور ایک صحابی سے جن کو دشمن سولی پر چڑھانے جا رہے تھے دشمن نے پوچھا کہ ”تمہارے بجائے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر کر دیا جائے اور تم بچ جاؤ تو تمہیں منظور ہوگا، انہوں نے جواب دیا کہ میں تو اس کو بھی قبول نہیں کر سکتا کہ میری زندگی بچ

جائے اور اس کے بدلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ایک کانٹا بھی چھے، چنانچہ وہ شہید کر دیئے گئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کو خدا کی طرف سے جو صلہ ملے گا وہ بھی بہت عظیم صلہ ہے، فرمایا گیا کہ آدمی آخرت میں اس کے ساتھ ہو گا جس سے اس کو محبت ہے، یہ حدیث ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے کہ آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملنے کی امید بندھتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ صلہ کس قدر و قیمتی اور عظیم صلہ ہے کہ آخرت میں جہاں کوئی کسی کا ہمدرد نہیں، نعمگار نہیں، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے، ذرا غور کیجئے اس شخص کی کامیابی اور نعمت کا کوئی ٹھکانہ ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ اور بڑی سے بڑی دولت کے مالک جب سرگردان اور حیران و پریشان ہوں گے اور کسی کو کچھ سمجھھ میں نہ آتا ہو گا کہ کیا کرے اس کو اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے، کیسی بڑی نعمت و دولت ہے، لیکن محبت کے سچی اور صحیح ہونے پر ہی اس نعمت کا استحقاق ہو سکے گا، اور سچی اور پکی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ ﷺ کی خوشی کا کام کیا جائے اور ناخوشی سے بچا جائے، آپ ﷺ کے احکام کی پیروی کی جائے اور زندگیوں کو اس پیانے میں ڈھالا جائے جو آپ ﷺ کی حیات طیبہ کے شب و روز کے حالات سے اور تکلیف و راحت میں آپ ﷺ کے طرز و طریقہ سے، عبادات و معاملات میں آپ ﷺ کی سنت سے بنتا ہے۔

آپ ﷺ سے سچی محبت کا یہی معیار ہے کہ دیکھا جائے کہ ہماری زندگی میں آپ ﷺ کے طریقہ و سنت کی پیروی کہاں تک ہے، دعویٰ کرنا آسان ہے محبت و تعلق کا لفظی اور دکھاوے کا اظہار آسان ہے، آدمی جس طرح اپنی بہت سی خواہشوں پر پیسے صرف کر دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے اور دکھاوے پر بھی صرف

کر لیتا ہے، روشنی جلسہ جلوس بھی آسان کام ہیں، اس سب میں دل بھی لگتا ہے اور مزہ آتا ہے، لیکن جس میں جی لگتا ہوا اور معلوم ہو جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی بات نہیں، آپ ﷺ کا یہ طریقہ نہیں، پھر اس کو آدمی چھوڑ دے اور اس کے مزے سے اپنے کو بچالے یہی وہ مشکل کام ہے جو ہماری زندگی سے نکلتا جا رہا ہے اور جو سنت ہے، جس سے اللہ کے رسول خوش ہوں گے اس کو اختیار کرے خواہ اس میں کوئی مزہ نہ ہو کوئی دکھاوانہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور خوشنودی آپ ﷺ کے احکام پر عمل کر دکھانے سے اور آپ ﷺ کی سنت کی پیروی سے ہوگی۔

ہم دیکھیں کہ آپ ﷺ خوشی کے موقعوں پر کیا کرتے تھے، رنج کے موقعوں پر کیا کرتے تھے، اپنے پروردگار کی عبادت اور اس کے احکام کی بجا آوری کیسی کرتے تھے پھر اپنی بیویوں سے کیسے پیش آتے تھے، بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا ساتھیوں اور رفقاء کا کیسا خیال کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، کیسی رحمدی تھی، کیسا اخلاق تھا، لوگوں کے حقوق کیسے ادا کرتے تھے، غریبوں کی کیسی مدد کرتے تھے، پریشان حال لوگوں کے ساتھ کام آتے تھے، اسراف اور فضول خرچی سے بچتے اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے، وہ اپنے ماننے والوں اور محبت کرنے والوں سے کیا مطالبہ کرتے تھے، ایک صحابیؓ نے جن سے آپ ﷺ ایک موقع پر بہت خوش ہوئے، عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آخرت میں اپنی رفاقت کی دعا کیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ سجدوں سے یعنی پروردگار کی خوب عبادت کرنے سے میری مدد کرو، یعنی میری دعا کو تقویت پہنچاؤ، آپ ﷺ نے جھوٹ اور غیبত سے اور دوسروں کی دل آزاری سے بہت سختی سے منع کیا ہے حتیٰ کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت میں ایسا بھی شخص لا یا جائے گا جس نے خوب عبادت کی ہوگی لیکن لوگوں کی دل آزاری کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا جب اس کا حساب ہوگا تو جن کی اس نے دل

آزاری کی ہوگی ان کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی حتیٰ کہ اس کا دامن اس کی اپنی نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور اس کو آگ میں جانا پڑے گا۔

ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ثبوت دینا چاہیے اور آپ ﷺ کے بتائے ہوئے اخلاق اور اتباع سنت کو اختیار کرنا چاہیے،

یہی اس محبت کا حق ہے اور آپ ﷺ کی خوشنودی حاصل کرنے کا اور آخرت میں کامیابی کا یہی ذریعہ ہے، آپ ﷺ کی محبت کے اظہار میں ان باتوں سے بھی بچنا چاہیے جس کو آپ ﷺ نے منع کیا ہے، اس میں صرف چمک دمک کے لیے بے تحاشہ روپیہ خرچ کرنا جب کہ اس کو بچا کر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی جاسکتی ہے، جو کہ ماحول کے اندر متعدد پائے جاتے ہیں۔ (۱) تقریبات میں بے جا و ہوم دھڑکا اور ایسے طریقے اختیار کرنا جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، ان کے ساتھ اگر محبت رسول کا مظاہرہ کرے تو وہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں کر سکتا ہاں اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لئے ان کے لائے ہوئے دین کو مضبوط کرنا، اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے، جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر بڑی تکلفیں اٹھائیں ہیں، یہی اہم کام ہے، ہم سچی محبت کا ثبوت اس وقت دیں گے کہ ہر موقع پر اور موقع نکال کر اچھی عادتوں اور اچھی باتوں کو پیدا کریں اور پھیلا کیں اور سیرت کے جلسوں میں بھی یہ باتیں کہیں۔

(۱) جن کی معاشرے میں کمی نہیں ہے۔

## صفاتِ نبوي ﷺ ہر خاص و عام کے لئے قابل عمل

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف ہادی ہی بنا کرنے میں بھیجا بلکہ ان کو انسانیت و شرافت اور زندگی کے لئے صلاح و فلاح اور صفات حسنہ کا نمونہ بھی بنا کر بھیجا، مزید یہ کہ انسانیت کو راہ راست اور معیار اعلیٰ پر لانے کے لئے ایسی کاوش کے ساتھ جس سے انسانوں کو جانوروں جیسی بے مہار زندگی سے نکل کر انسانیت کو خیر و کامیابی کی زندگی میں داخل ہونے کی راہ ملنی، اور اس وقت دنیا کی بیشتر خوبیاں اور فائدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی ہی کے نتیجہ میں حاصل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر ان کو رحمۃ للعالمین کی صفت عطا فرمائی، اور ان کی حیات طیبہ کو انسانی شرافت اور خوبی کا ایسا نمونہ بنایا جس کو اختیار کرنے سے زندگی بھی درست ہوتی ہے، اور پروردگار کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، اور جس کے نتیجہ میں دنیاوی زندگی میں کی جانے والی کوششوں کا صلد آخرت میں کامیابی کی صورت میں ملے گا۔

قرآن مجید میں فرمایا گیا:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ

يَرْجُو اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

(سورہ الاحزاب: ۲۱)

”کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں اچھا نمونہ ہے یہ اس شخص کے لئے جو اللہ سے امید قائم کرتا ہے اور آخرت میں (اللہ تعالیٰ کی رحمت کی) امید کرتا ہے اور اس نے اللہ کو بہت یاد کیا ہے۔“

اور فرمایا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ

(سورہ آل عمران: ۳۱)

”کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔“

دنیا کی یہ محدود زندگی گزر جانے کے بعد آخرت کی جو لامناہی زندگی ملے گی اس میں ہمارے اس دنیاوی زندگی کے اعمال و افعال، وہاں جزا و سزا کے فیصلے کے لئے تو لے جائیں گے، ان میں وزن اللہ کے حکم کی تعییل کا دیکھا جائے گا، اور اس کے حکموں کی تعییل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کی اتباع کے لحاظ سے سمجھی جائے گی، ہماری زندگی، ہمارے اعمال، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے جس قدر قریب یا مطابق ہوں گے اسی کے بقدر وہ ہم کو آخرت میں کامیابی اور راحت دلائیں گے۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے اعمال و اخلاق کو اپنی زندگی کے لئے نمونہ بنانا، ہی اللہ تعالیٰ سے محبت اور اطاعت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور کسی سے محبت سچی اسی وقت مانی جاتی ہے جب محبوب کی ہربات اچھی لگتی ہو اور محبت کرنے والا اس کی نقل کی کوشش کرتا ہو، ورنہ وہ محبت محض دعوا ہے محبت قرار پاتی ہے جس

کو سچانہیں سمجھا جاتا۔

ہم مسلمانوں کو اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتے ہیں یا ہم کوشیطان دھوکہ دے رہا ہے، اور شیطان ایسا کرتا ہے کہ وہ انسان کے نفس کے اندر گھس کر اس کو بہر کاتا ہے اور انسان کا نفس جب بہک جاتا ہے تو انسان کا سارا عمل بہک جاتا ہے، خواہ اس کو یہ دھوکہ دیا گیا ہو کہ تمہارا عمل نہیں بہکا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی زندگی کو مختلف حالات سے گزروایا ہے غربت سے، امارت سے، دوستیوں سے، دشمنیوں سے، جنگ کے حالات سے، مسرت کے حالات سے، غم کے حالات سے، خوشی کے حالات سے، اولاد کے پیدا ہونے کی مسرت سے، اور اولاد کے انتقال کر جانے کے رنج سے، ایسے حالات سے جن سے شکر گذاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایسے حالات سے جن میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، غصہ دلانے والے حالات سے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے حکم اور رضا کے مخالف معاملہ ہوتا تو غصہ کرتے اور اگر محض اپنی ذات کی بات ہوتی تو صبر و تحمل سے کام لے کر نظر انداز کر دیتے تھے۔

آپ ﷺ کی صفات طیبہ کا ذکر کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے کبھی کسی کو مارا نہیں نہ گھر کے کسی فرد کو نہ کسی خادم کو، آپ ﷺ پر غصہ نہ کرتے تھے، ہاں اگر حق کے خلاف کوئی بات کی جاتی تو آپ ﷺ کو بے حد غصہ آ جاتا، مجلس میں آتے تو کسی کو ہٹاتے نہیں اور نہ نیچ میں گھس کر بیٹھتے بلکہ جہاں جگہ ہوتی وہیں بیٹھ جاتے، یہ بات الگ تھی کہ پھر وہی جگہ مجلس کی مرکزی جگہ بن جاتی، ملاقاتی اگر دور سے آیا ہوتا اور اجنبی ہوتا تو اس کی بات صبر کے ساتھ سنتے اور پوری بات کرنے دیتے اور ہمدردی کا جواب دیتے، کبھی کوئی سائل اس طرح مانگتا کہ پریشان کر دیتا لیکن آپ ﷺ صرف نرم

بات کہتے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے اگر ہوتا تو دے دیتے، اور اگر آپ ﷺ کے پاس ہوتا تو مانگنے والے کو اپنی بڑی سے بڑی چیز دے دیتے اور فرماتے کہ میں بخیل نہیں ہوں۔

ہر وقت اپنے پروردگار کی ناراضی سے ڈرتے رہتے، ذرا تیز ہوا چلتی تو ڈرتے کہ کبھی اللہ کی پکڑ یا عذاب تو نہیں، فوراً استغفار کرتے، نماز پڑھتے اور اللہ کی رضا چاہتے، اللہ کی عبادت میں رات کا بڑا حصہ گزار دیتے کہ پیروں میں ورم ہو جاتا، اور جب کہنے والا کہتا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ ﷺ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں تو فرماتے کہ کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گذار بندہ نہ بنوں، اس طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم گرم ہر طرح کے حالات کا سامنا کیا اور ایمان والوں کے لئے صبر و شکر کا بہترین نمونہ پیش کر دیا، عبادت میں اور اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے میں اعلیٰ معیار قائم کر دیا، انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور حُسن اخلاق کا شاندار نبوی اسوہ قائم کر دیا۔

اور ہم سب انسانوں کو ہمارے پروردگار نے حکم دیا کہ اس عظیم اور رحمۃ للعالمین رسول ﷺ کی پوری کریں کہ اس میں ہماری کامیابی اور نجات ہے، اور ہم کو اس کا حساب آخرت میں اپنے پروردگار کے سامنے دینا ہے اس کے لئے ہماری اسی دنیا کی زندگی کو ہمارے لئے میدان عمل بتایا گیا ہے، اسی میں ہم کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم کو اپنے پروردگار سے محبت ہے یا نہیں، ہم اس کی رضا چاہتے ہیں یا نہیں، اور جبکہ اس کے لئے اس کے آخری رسول محمد ﷺ کی پوری کو ضروری قرار دیا گیا ہے، تو ہم کو آخرت میں کامیابی اور اپنے پروردگار کی رضا اسی کے بقدر ملے گی جس قدر ہم اپنے رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کریں گے اور ان کے اسوہ طیبہ کی تل کریں گے اور ان سے محبت کا صحیح ثبوت دیں گے۔ (اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمين)

## تعلق رسول اور اتباع کامل

رسول اکرم خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو کہیں قرآن مجید میں ”هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوَّ أَعْلَيْهِمْ أَيْتَهُمْ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ“ فرمایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی اس کی فرمائی ہوئی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور دانائی کی باتیں بتاتے ہیں اور اخلاق کی درستگی سکھاتے ہیں، اور کہیں فرمایا گیا، کہ ”إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ“ کہا آپ ﷺ عظیم اخلاق و کردار کے حامل ہیں اور کہیں فرمایا گیا ”لَقَدْ كَانَ لِكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا“ کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول ﷺ میں اچھا نمونہ ہے، یہ اس کے لئے ہے جو اللہ سے امید کرتا ہو اور آخرت کے دن سے امید رکھتا ہو اور جس نے اللہ کو بہت یاد کیا ہو۔

الغرض یہ کہ مومن کے لئے اللہ کے آخری اور برگزیدہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کا مینار ہیں، اپنی زندگی کے لئے ان سے روشنی حاصل کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا اور زندگی کے کردار اور اخلاق و صفات میں ان کو اپنے لئے نمونہ بنانا ہر مسلمان کا فرض ہے، اس لئے کہ اسی میں صلاح و فلاح ہے اور یہی مردِ مومن کا وظیفہ

و طریقہ ہے اور جس نے اس وطیرہ اور طریقہ سے انحراف کیا یا تغافل بردا وہ صحیح راستہ سے دور ہوا، اور اس کی زندگی جادہ مستقیم سے ہٹ گئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ سمجھنے اور ان کی پیروی کرنے کے لئے دو ہم شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ﷺ سے وفادارانہ اور محبانہ تعلق ہو اور وہ ایسا ہو کہ اس ذات عظیم پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہو، صرف زبان سے محبت کا اظہار نہ ہو، بلکہ وہ حقیقت ہو، اور اس میں اخلاص ہو، جیسا کہ صحابہ کرام ﷺ کو تھا کہ اسلام کی وفاداری کی سزا میں قتل کئے جا رہے ہیں اور ان سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا تم اس کو قبول کرو گے کہ تمہاری جگہ اس وقت تمہارے نبی محمد ﷺ ہوں اور تم نجح جاؤ۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ میں تو اس کے لئے بھی تیار نہیں کہ آپ ﷺ کے قدم مبارک میں کاشا چھپے اور میں اس کے عوض میں موت سے نجح جاؤ۔ حضرت حسان بن ثابت النصاری رضی اللہ عنہ اپنے ایک مدحیہ شعر میں کہتے ہیں۔

### اُبی والدہ و عرضی لعرض محمد منکم وقاء

”کہ میرے بابا اور دادا اور خود میری عزت و آبر و سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لئے نشانہ اور ڈھال ہے“

ایک جنگ سے واپس آنے والوں سے ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، جواب دینے والا کہتا ہے مگر تمہارے والد شہید ہو گئے، وہ پوچھتی ہیں کہ، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارے شوہر بھی کام آگئے، وہ پوچھتی ہیں کہ یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے رہیں تو ہر مصیبت کمتر ہے، اگر مومن میں

ایسی یا اسی سے قریب تر محبت نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور مخلصانہ پیروی، تابعداری اور زوفاداری نہیں ہو سکتی۔

دوسری شرط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یعنی اخلاق و صفات، بندگانِ خدا سے آپ ﷺ کی ہمدردی، آپ ﷺ کا حسن معاملہ، بُرا چاہنے والوں کے ساتھ آپ ﷺ کا سلوک، رضاۓ الہی کی طلب، آخرت کی فکر، ہر ایک کے لئے ہمدردی اور خیر طلبی، دنیا و دین میں اس کی کامیابی کی فکر اس کے صلاح و فلاح کا خیال، یہ سب جاننے کی کوشش کی جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ آپ ﷺ انسانوں کے ساتھ اخلاق و محبت کا کیا برداشت کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسی شفقت کرتے تھے، غیروں اور دوسروں کے ساتھ کیسی ملاطفت و ہمدردی کرتے تھے، لوگوں کی دینی اصلاح اور ان میں خدا طلبی کا جذبہ کس طرح پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ ﷺ پروردگار کی رضا کے حصول اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے بچنے کے لئے کیسی تربیت و تلقین کرتے تھے۔

یہ دو شرطیں ہیں جن کے ذریعہ ایک مومن کو اپنی زندگی سنوارنا، اور اپنے ایمان کو سچا بنانا ہوتا ہے، یہ شرطیں پوری ہوں تو مقصد حاصل ہوتا ہے، اور یہ شرطیں نہ پوری ہوں تو مقصد حاصل نہیں ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ معلوم کر کے اس کی پیروی نہ کرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں جوڑ نہیں کھاتا۔

بعض وقت آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ ﷺ کی سیرت طیبہ کو جاننے کی کوئی فکر نہیں کرتا اور سیرت طیبہ کے مرطابعہ سے حاصل ہونے والے اخلاق و صفات کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا، ایسے آدمی کا دعویٰ کیسے سچا مانا جائے گا۔

## اسوہ رسول ﷺ اور ہمارا فرض

تاریخ انسانی کے طویل سلسلے کے مطالعے اور جائزے کے بعد یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہی تمام انسان کے لئے (بلا تخصیص زمان و مکان) اسوہ حسنہ اور کامل و جامع نمونہ ہے، جس کی اتباع و تقلید اور اس سے استفادہ و فیضیابی ہی افراد کی تعمیر سیرت، کردار سازی اور اقوام ملل کی دینی و دنیوی صلاح و فلاح کی تہذیباً ضامن، مسائل حیات اور زندگی کی گوناگون مشکلات کا واحد حل، قیام امن و مساوات کا واحد لائجہ عمل، اخلاقی و روحانی سیاسی و معاشرتی، اقتصادی و تمدنی ترقی کا کامیاب ذریعہ و سیلہ اور مجموعی طور پر بہترین نظام زندگی، کامل دستور حیات اور انسانیت کے لئے "سفینہ نجات" ہے۔

سیرت نبوی ﷺ کی اس اہمیت، ضرورت اور افادیت کے پیش نظر مسلمان اور غیر مسلم مومنین کے قلم سے دنیا کی ہر بڑی زبان میں سیرت کے مستقل ذخیرے اور کتب خانے تیار ہو چکے ہیں، مگر اپنے اپنے عہد کے لحاظ سے اس پہشمند صافی اور اس گنج بے بہاء سے گوناگون استفادہ کی ضرورت برابر قائم ہے، بلکہ عصری مسائل اور دور حاضر کی مشکلات کے حل کے لئے سیرت نبوی ﷺ سے مراجعت، پہلے سے کہیں زیادہ ناگزیر ہے کہ سیرت کی کاملیت و جامعیت اور اس کی عالمگیری و ابدیت کا یہ

لازمی تقاضا ہے۔

ہنوز آں ابر رحمت درفشان است

خم و خنانہ بامہر ونشان است

اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لئے قابل تقلید نمونہ بنایا کر بھیجا اور سارے انسانوں کو اس بات کی تائید کی کہ اپنے پروردگار کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کے رحمۃ للعالمین نبی کو اپنی زندگیوں کے لئے نمونہ سمجھیں، اور اپنے عمل کو اسی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے اعمال و افعال کو عقیدہ توحید کے ساتھ اسی کوشش کی بنیاد پر قبول کرے گا یا رد کرے گا۔

سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی و رسول اور پھر تمام نبیوں و رسولوں کا سردار بنایا کہ تمام لوگوں کی جانب اور سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت کسی ایک آدمی یا کسی ایک شہر و ملک کے لئے نہیں بلکہ ساری انسانیت اور سارے جہانوں کے لئے، گزشتہ انبیاء علیہم السلام نے آپ ﷺ کی بشارت سنائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ارشاد ہوا:

”يَسِّنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيِّي مِنَ التُّورَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمَهُ أَحْمَدُ“ (سورہ صف: ۱۶)

”اے نبی اسرائیل میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب محمد ﷺ سے پہلے آچکی ہے، (یعنی) تورات میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہو گا ان کی بشارت سناتا ہوں۔“

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی ذات والاصفات کو جامع کمالات بنایا رسالت کے مختلف پہلو، قیادت کے نوع ب نوع خصائص اور بلند انسانی اخلاق آپ ﷺ کی ذات میں جمع تھے، آپ ﷺ کی شریعت ہمہ گیر تھی، اور آپ ﷺ سیاسی اور فوجی قیادت کی بھی اعلیٰ صلاحیت کے حامل تھے، وسیع پیمانہ پر ایک علمی و فکری بیداری آپ ﷺ نے پیدا کی، انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے نہایت مضبوط بنیادوں پر آپ ﷺ نے اسلامی زندگی کی تعمیر فرمائی، آپ ﷺ کی ذات سے انسانی تاریخ کے ایک نہایت زریں وروشن باب کا آغاز ہوا، ایسا باب جیسا اس سے قبل دیکھنے میں نہ آیا تھا، جہاں دین بھی تھا اور دنیا بھی تھی، اخلاق بھی تھے اور سیاست بھی تھی، دعوت بھی تھی اور عمل بھی تھا، جہاں انسانیت کی خدمت بھی تھی، اور حق کا دفاع بھی، مسلح جہاد اور نمرد آزمائی کے طریقے بھی تھے، اور صلح کی زندگی بھی، تاریخ انسانی نے اس ذات والاصفات سے جس دور کا آغاز کیا وہ اس اعتبار سے تاریخ کا بڑا عظیم الشان دور تھا، کہ یہ انسان کی دینی، فکری قائدانہ زندگی پر محیط تھا، اور آپ ﷺ کی پاکیزہ شریعت حیات انسانی کے مختلف گوشوں پر سایہ فگلن تھی، اس شریعت میں تمام انسانی طبقات، گروہوں اور عناصر کو ایک لڑی میں پروردیا اور ان سب کو ایک جادہ کام سافر بنادیا، وہ جادہ فضیلت، حق اور خیر تھا، آپ ﷺ سے یہ صاف صاف کہہ دینے کہ کہہ دیا گیا:

فُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوكُ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ (یوسف: ۱۰۸)

”میرا راستہ تو یہ ہے میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، (از روئے یقین

و برہان)“

اور یہ وضاحت کر دینے کو فرمادیا گیا کہ:

قُلْ إِنَّكُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ

وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔

”کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور تمہارے گناہوں کو بخشن دے گا۔“

اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انسان کے اخلاق و اعمال کو اپنی زندگی کے لئے نمونہ بناتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے اعمال اور اخلاق کو اپنی زندگی کے لئے نمونہ بنانا، ہی اللہ تعالیٰ سے محبت اور اطاعت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، کسی سے محبت سچی اسی وقت مانی جاتی ہے جب محبوب کی ہر بات اچھی لگتی ہو اور محبت کرنے والا اس کی نقل کی کوشش کرتا ہے ورنہ وہ محبت محض دعوا ہے محبت قرار پاتی ہے جس کو سچا نہیں سمجھا جاتا۔

---

## نبی کریم ﷺ کی معاشرتی زندگی

حضرور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ شریعت اسلامی کا اہم مأخذ ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان کی زندگی کے لئے واجب التقلید نمونہ ہے، اس سے ایک طرف شریعت کے بہت سے احکام و ہدایات ملتے ہیں، دوسری طرف اسی سے ہم کو اسلامی زندگی کا مثالی نمونہ ملتا ہے۔ اس حیات طیبہ کو سن کر اور پڑھ کر مسلمان کا دل و دماغ جو کچھ اخذ کرتا ہے اس سے اس کی دنیا بھی بنتی ہے اور دین بھی بنتا ہے آپ ﷺ نے جو فرمایا اور آپ ﷺ نے جو کیا اور آپ ﷺ نے جو دیکھا اور ہونے دیا، اس سب کو حدیث کا نام دیا جاتا ہے، اور حدیث شریعت اسلامی کا ایک بہت بڑا ستون ہے، لہذا مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جی لگا کے مطالعہ کرے، اپنے جلسوں میں، تقریروں میں، گفتگوؤں میں اس کی باتوں کا چرچا کرے ان باتوں سے سبق لے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے جن کو مستند کتابوں میں نقل کیا گیا ہے اور جن کا انسانی زندگی سے گہرا تعلق ہے خواہ وہ زندگی دین کے معاملات کی ہو، خواہ دنیا کے معاملات کی، لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں کی توجہ اس کی طرف بہت کم ہے، ربیع الاول آتا ہے، سیرت النبیؐ کے جلسوں کی رونق آجاتی ہے، یہ جلسے بہت مبارک ہیں اور ضرور کرنا چاہئیں، لیکن اس

بات کی فکر بھی بہت ضروری ہے کہ ان جلسوں سے صحیح فائدہ اٹھایا جائے، شرکت کرنے والوں کی اخلاقیات درست ہوں اور وہ ان سے سیکھیں اور نصیحت حاصل کریں، اس سلسلہ میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنے لوگوں کی زندگیوں میں ان کے سنتے اور جانے سے تبدیلی آئی، کتنے لوگوں کی زندگی شریعت اسلامی کے سانچے میں ڈھلی۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جلسہ کرنے والوں میں کوئی نہ کوئی بے خیالی ہے کہ جو فائدہ حاصل کر سکتے تھے وہ حاصل نہ کر سکے اور اس مقصد کو پورا نہ کر سکے جس مقصد کے نام پر یہ جلسے کئے جاتے ہیں، وہ صرف مجذرات یا ایسے کمالات کے بیان میں مدد و ہو کر رہ گئے جن پر آپ ﷺ کے امتوں کا عمل ممکن نہیں یا بہت ہی مشکل ہے دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ نہ مقررین اس کا خیال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے نصیحت آمیز پہلوؤں کو بیان کریں اور نہ سامعین کو اس کا شوق کہ وہ باتیں سنیں جن سے ان کو سبق ملتا ہو، ہاں چمک دمک، ذوق و پسند کی باتیں، خوش کن جلسہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس سے فائدہ پہنچنے کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر اس سب میں حیات طیبہ مبارکہ کی عملی روح بیان کی جاتی اور حیات طیبہ کا مقصد چمکتا نظر آتا تو زندگیوں کو روشن کر دیتا اور اعمال کی اصلاح کر دیتا جس کی اس وقت امت کو بہت ضرورت ہے اور امت اس سے بہت ہٹ گئی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پور دگار کے محظوظ اور عظیم المرتبت نبی تھے تو آپ ﷺ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ناز و نعم میں زندگی گزارتے اور آرام و راحت کے ساتھ اپنی نبوت کی ذمہ داری پوری کرتے، شان و شوکت بھی نظر آتی، عظمت و قوت بھی خوب ظاہر ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ ﷺ نے غربت جیسی اور سادہ طرز کی زندگی گزاری، نہ اس میں دولت مندی کا اظہار تھا اور نہ شان و عظمت کا ادکھاوا، بلکہ

واقعہ تو یہ ہے کہ آپ ﷺ کو زندگی کی بہت صعبوں تیں برداشت کرنا پڑیں، مصیبتیں جھیلنا پڑیں، اور یہ سب دعوت حق کو عام کرنے کے لئے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی و خیرخواہی کرنے کے لئے اور اپنی امت کو زندگی کے رضاۓ الٰہی والے طریقوں کو بتانے کے لئے گوارا کرنا پڑا، خود تکلیف اٹھاتے دوسروں کو آرام پہنچاتے، غریبوں کی مدد کرتے، سب کے ساتھ برابری اور اخلاق کے ساتھ پیش آتے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو پیدا ہونے سے قبل اور پیدا ہونے کے چند سال بعد والد والدہ کی شفقتوں سے محرومی برداشت کرنی پڑی، ذرا بڑے ہوئے تو شفیق دادا بھی نہ رہے، صرف چچا کی ہمدردی و شفقت باقی رہی، لیکن چچا کو غربت کا سامنا تھا۔ لہذا آپ ﷺ کو بھی غربت کا سامنا کرنا ہوا، تینی پھر غربت دو ہری دشواری، آپ ﷺ کچھ بڑے ہوئے تو معاشری لحاظ سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی تدبیر کی آپ ﷺ نے اپنے قبیلہ کے دستور کے مطابق کار و بار و تجارت کی طرف توجہ دی، آپ ﷺ کی دیانت و امانت اثر لائی اور کار و بار کے ذریعہ آپ ﷺ کے اقتصادی حالات میں تبدیلی آئی، اس سے آپ ﷺ نے شفیق چچا کی مدد بھی کی، اور وہ اس طرح کہ ان کے ایک صاحبزادہ کو آپ ﷺ نے اپنی کفالت میں لے کر ان کے بوجھ کو ہلکا کیا، دوسری طرف قوم کے سامنے آپ ﷺ کے جو اعلیٰ انسانی اخلاق و کردار آئے ان سے آپ ﷺ کو سب کی محبت و قدر حاصل ہوئی، آپ ﷺ کا نام سب نے امانت دار رکھ دیا اور آپ ﷺ سب کی آنکھوں کا تارہ بن گئے، ہر ایک بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگا اور تعریف کرنے لگا کہ اتنے میں ثبوت کی ذمہ داری ملی اور اس کا کام سپرد ہوا، اس کام کے کرنے سے لوگوں کا سابق رویہ بدلتا گیا آپ ﷺ کے درپے آزار بن گئے، اگر پہلے جیسے

رہتے تو قریش میں آپ سے زیادہ پسندیدہ اور محترم شخص کوئی اور نہ ہوتا، آپ ﷺ قریش کے بادشاہ کی طرح ہو جاتے اور آپ ﷺ کو دنیاوی وجاہت انتہا درجہ کی حاصل ہوتی، آپ ﷺ جو کہتے قریش اس کو بجالاتے، آپ ﷺ کے لئے سب اپنی نگاہیں فرش راہ کرتے، لیکن خدا کو آپ ﷺ سے دعوت و اصلاح کا کام لینا تھا آپ ﷺ کو حکم ہوا کہ قوم کے عقیدوں اور مذہبی عادتوں کی جو بگڑی ہوئی شکلیں چل رہی تھیں ان کی اصلاح کا پیغام سنائیں، آپ ﷺ نے رسالت کی ذمہ داری اٹھائی اور اس کی انجام دہی سے جو تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہونا تھا اس کے لئے تیار ہو گئے آپ ﷺ کو آرام مطلوب نہ تھا آپ ﷺ کو انسانوں کی خیرخواہی مطلوب تھی، چنانچہ عدالت کا جو طوفان اٹھا وہ زبردست تھا، آپ ﷺ کو امانت دار اور نیک کردار کہنے والے اور عزت و احترام سے پکارنے والے بگڑ گئے، پہلے جو تعریف کرتے تھے اب برائی کرنے لگے، پہلے آنکھوں میں بھانے کے لئے تیار رہتے تھے، اب پھر مارنے لگے، عزت کرنے والے مذاق اڑانے لگے، گندگی اور کچھڑا لئے لگے، آپ ﷺ نے یہ سب جھیلا اور پیغام خداوندی سناتے رہے، حق و انسانیت کے لئے حکم الٰہی کی بجا آوری کے لئے سب برداشت کرتے، جواب نہ دیتے، صبر آزماء معاملہ تھا، لیکن آپ ﷺ نے عظیم صبر سے کام لیا، برداشت سے باہر تھا، پھر بھی برداشت کیا، کیونکہ حکم الٰہی تھا کہ برداشت کرو، جواب نہ دو، مخالفت کے باوجود نیکی کی تلقین کرتے اور حق کا پیغام پہنچاتے رہے، ۱۳ سال اسی جدوجہد اور صبر میں گزرے، اور برداشت اور صبر کا حکم جاری رہا، حتیٰ کہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور دوسری جگہ منتقل ہونا پڑا، بالآخر خدا کی طرف سے اجازت ملی کہ بہت ظلم ہو چکا اب جواب دے سکتے ہو، اب مقابلہ پڑے تو مقابلہ کر سکتے ہو، اللہ کی مدد ہوگی، یہاں سے مقابلہ کا آغاز ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد تکلیف جھیلنے اور برداشت کرنے میں آتی تھی وہ مقابلہ کی اجازت

کے بعد جاری رہی اور میدان جنگ میں آئی آپ ﷺ پر دشمن حملہ آور ہوتا، آپ ﷺ کے نئے وطن مدینہ پر چڑھائی کرتا، آپ ﷺ مقابلہ کرتے اور بہادری کا ثبوت دیتے، یہ سب حق کے لئے تھا اپنے پروردگار کی رضا کے حصول کے لئے تھا، نفس کشی تھی، راحت کی قربانی تھی، مکہ کی ۱۳ سالہ مدت میں بھی قربانی اور مدینہ کی ۱۰ سالہ مدت میں بھی خطرات کا مقابلہ اور قربانی، اعلیٰ اور پاکیزہ زندگی، انسانیت، رواداری، برداشت، ثابت قدمی، بہادری، شرافت و عظمت، کردار کے طرح طرح کے انداز، یہ تھی انسانیت نواز مثالی زندگی، آپ ﷺ کی ایک ایک ادا، ایک ایک گوشہ آپ ﷺ کی امت کے لئے رہنمای اصول تھا، نمونہ کا کردار تھا اور وہ انسانی زندگی کے متنوع و مختلف پہلوؤں پر مشتمل تھا، آپ ﷺ اپنے رفقاء کے ساتھ ایک نہایت ہمدرد اور انس و محبت رکھنے والے رفیق تھے، عام انسانوں کے لئے غمگسار اور انسانیت نواز انسان تھے، کمزوروں، غریبوں کی مدد کرنے والے، چھوٹوؤں پر شفیق، بڑی عمر والوں کی عمر کا خیال کرنے والے، گھر کے اندر گھر کے ایک عام فرد، اپنے اصحاب و رفقاء میں ان کے احساسات و جذبات کا خیال رکھنے والے تھے، آپ ﷺ کی تعلیم تھی چھوٹے اور بڑے دونوں ایک جگہ ہوں، تو بڑے کے بڑا ہونے کا خیال کرو، بچوں کے ساتھ شفقت و رعایت کا یہ حال تھا کہ ایک بچہ ابو عمیر تھا اس کے پاس ایک چڑیا تھی جو مر گئی تھی، آپ ﷺ اس سے ملے تو اس سے ہمدردانہ طریقہ سے پوچھا اے ابو عمیر! تمہارا پرندہ تغیر کیا ہوا؟ ”یا ابا عمیر ما فعل النُّغَيْر“ آپ ﷺ کو کوئی بوڑھی عورت راستہ میں روک لیتی اور اپنی بات کہتی رہتی آپ ﷺ سنتے رہتے اور اس کا دل چھوٹا نہ کرتے، آپ اپنے رفقاء کے ساتھ ہوتے تو ان سے انس و بچپنی کی بات کرتے، ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نے آپ سے جنت میں جانے کی دعا کی درخواست کی آپ ﷺ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہ جائے گی، وہ روتی

ہوئی بولنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ جنت میں بڑھاپے کی حالت میں نہیں داخل ہوگی۔ ایک شخص نے آپ ﷺ سے اپنی ضرورت کے لئے اونٹ مانگا، آپ ﷺ نے ازراہ مزاح فرمایا کہ تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ بچہ سے میرا کام نہ چلے گا، آپ ﷺ نے فرمایا: ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے ایک مرتبہ رات کا وقت تھا اور کوئی خطرناک آواز آئی جیسے کوئی دشمن ہو یا خوفناک جانور، آپ ﷺ نے تحقیق کے لئے اپنے رفقاء کی طرف دیکھا وہ بچہ ڈرے سے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں خود جا کر دیکھتا ہوں اور آپ ﷺ نے کسی پر دباؤ نہیں ڈالا خود جا کر دیکھا اور تحقیق کر کے تشریف لائے۔

اسلام میں ضرورت محسوس ہونے پر ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، جو عام مسلمانوں کے لئے چار کے اندر محدود رکھی گئی ہے البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ کی اجازت دی گئی لیکن آپ ﷺ نے عنفوان شباب کا سارا زمانہ صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارا اور وہ بھی آپ ﷺ سے عمر میں بڑی تھیں، بعد میں نبوت کے کام کے ساتھ حکومت و سیاست، صلح و جنگ اور دیگر معاملات کی ذمہ داریاں آپ ﷺ کی بہت بڑھ گئیں، اس وقت آپ ﷺ نے کئی بیویوں کی اجازت سے فائدہ اٹھایا اور اس اجازت سے آپ ﷺ نے بہت سی پیچیدگیوں کو حل کرنے میں بھی مددی، آپ ﷺ نے اس کے ذریعہ یہ بھی دکھایا کہ اسلام میں ذات پات، سماجی پوزیشن اور رواجی عادتوں کے فرق کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا، چنانچہ آپ ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات میں اپنے معزز خاندان کی اور دیگر خاندانوں کی بھی بیویاں شامل کیں، آپ ﷺ نے نو مسلم خاتون کو بھی داخلِ زوجیت کیا، باندی بن کر آنے والی خاتون کو بھی آزاد کر کے داخلِ زوجیت کیا، اپنے متینتی کی مطلقة کو بھی شامل کیا جو کہ عرب کے معاشرے میں

غلط سمجھا جاتا تھا لیکن خدا کا حکم آیا کہ متنبی کو بیٹے کی طرح نہ سمجھا جائے اور اس کو بیٹے کے حقوق بھی نہ دیئے جائیں، چنانچہ آپ ﷺ نے عرب معاشرے کے متنبی کے غلط رواج کو توڑا آپ ﷺ نے ایسی شادیاں بھی کیں جن میں تعلق والوں کی ولداری مقصود تھی، ایسی بھی شادی کی جس سے غلط رواج کو باطل کرنا تھا، ایسی بھی کی جس میں دوسروں کی خدمات و تعلق کا صلہ تھا، پھر ان سب کے درمیان ایسا انصاف اور برابری کا برداشت کیا کہ جو اپنی نظری آپ ہے، اپنی پسند کو باعث ترجیح نہیں بنایا، مدینہ منورہ میں فدک و خیر میں آپ گوکچہ جاندے اور حاصل ہو گئی تھی، فصل پر اس کا غلہ آتا تو آپ ﷺ وہ برابر اپنی تمام ازواج مطہرات میں تقسیم کر کے ہر ایک کو اس کے حصہ کا مالک بنادیتے تھے، آپ ﷺ اپنے دنوں اور راتوں کو ازواج مطہرات میں برابری کے ساتھ تقسیم کرتے تھے اور اس میں ہر ایک کا حق پورا ادا کرتے تھے اور جب آپ کا آخری مرض ہوا تو بیماری کے تقاضہ سے آپ ﷺ نے ایک ہی گھر میں رہ کر علاج کرانا مناسب سمجھا، لیکن آپ ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات سے اس کی اجازت لی، جب اجازت مل گئی تب آپ ﷺ نے اس پر عمل کیا، جب آپ سفروں میں جاتے تو کسی ایک بیوی کو ساتھ لے جاتے اور ایسے میں خود اپنی مرضی و پسند سے انتخاب نہ کرتے بلکہ قرعدا لتے، جس کا نام نکلتا اس کو لے جاتے آپ ﷺ اپنے اہل خانہ کے لئے اس طرح اخلاق و محبت کا برداشت کرتے، جیسا شوہر کو بیوی کے ساتھ کرنا چاہئے، نبی ہونے کی بنا پر اس سے برتری کے طرز پر معاملہ نہ کرتے، بیوی کے انس و خوشی کا لحاظ رکھتے، ایک مرتبہ کچھ جنگجو اپنے ملک کے جنگی کرتب آپ ﷺ کے مکان کے سامنے دکھار ہے تھے آپ ﷺ نے اپنی الہیہ کو بھی دکھایا، بلکہ دروازہ پر کھڑے ہو کر آڑ بنا دی اور اپنے کاندھے کے پیچ سے ان کو دیکھنے کا موقع دیا، آپ ﷺ ایک بار بچوں کو پیار کر رہے تھے، ایک صحابی کو تعجب ہوا کہ آپ ﷺ نبی

جیسے باوقار منصب پر ہونے کے باوجود یہ عام لوگوں جیسا معاملہ کر رہے ہیں، لیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ حم و شفقت کا خذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں رکھا ہے اس کو دبانتا نہ چاہئے، آپ ﷺ کے ایک نواسہ کا انتقال ہوا تھا جو بچہ تھا، آپ ﷺ کی صاحبزادی نے آپ ﷺ کو بلاوایا، آپ ﷺ تشریف لائے بچہ کو گود میں لیا، آپ ﷺ کی آنکھوں میں آنسو آگئے، خود آپ کے صاحبزادہ کا بھی انتقال ہوا آپ ﷺ نے اپنے جذبات غم کو اپنے آنسو سے ظاہر کیا اور فرمایا کہ میرا دل بڑا غمزدہ ہوا، سرت کے موقع پر مسرت کا بھی اظہار ہوتا تھا، ایک غزوہ میں فتح کے موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو آپ ﷺ کے پچازاد بھائی تھے اور آپ ﷺ کو ان سے تعلق بھی بہت تھا، ہجرت جب شہر میں ایک عرصہ رہنے کے بعد آئے تو آپ ﷺ نے سرت کیفیت کے ساتھ فرمایا کہ میرے لئے یہ کہنا مشکل ہے کہ مجھے اس جنگ میں فتح سے خوشی زیادہ ہوئی یا جعفر رضی اللہ عنہ کے آنے سے خوشی زیادہ ہوئی۔

آپ ﷺ اپنے رشتہ داروں سے محبت کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ سے بلکہ تمام انسانوں کے ساتھ بھی ہمدردی اور محبت اور رواداری کا برتاؤ فرماتے کبھی اپنی ذات کے لئے کسی پر غصہ نہ کرتے، خواہ آپ ﷺ کا کیسا ہی نقصان ہوا اور اذیت پہنچے، آپ ﷺ نے کبھی اپنے کسی کام کرنے والے کو اس کی غلطی پر مارا نہیں، اپنے کسی صحابیؓ کی کسی غلطی پر ڈالنا نہیں، ہاں اگر اسلام اور دین کے معاملہ میں کوئی غلطی کرتا تو آپ ﷺ بہت ناراض ہوتے، ایک مرتبہ آپ ﷺ اپنے آخری زمانہ میں یہ فرمانے لگے کہ دیکھو اگر کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، میری طرف سے اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو وہ اس کا بدله اسی زندگی میں لے لے، آخرت پر نہ اٹھا رکھے اس پر ایک صحابیؓ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ ﷺ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا اس پر آپ ﷺ نے اپنی پیٹھ کھول دی کہ اس پر کوڑا مار لودہ

صحابیؓ کوڑا کیا مارتے لپٹ گئے اور مبارک پیٹھ کو چوم لیا، اپنے رفقاء کے ساتھ اتنے  
 با اخلاق تھے کہ کوئی فائدہ کی بات ہوتی تو اپنے ساتھی کو ترجیح دیتے، آگے بڑھاتے،  
 ذمہ داری اور مشقت کی بات ہوتی تو خود آگے بڑھاتے، آپ ﷺ نے اعلان فرمادیا  
 تھا کہ انتقال کرنے والا جائیداد چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کی ہے اور اگر قرضہ  
 چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، آپ ﷺ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ  
 رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کی بہت چیختی بیٹی تھیں، ہمیشہ ساتھ رہتی تھیں، دوسری  
 صاحبزادیوں کی طرح اپنے شوہروں کے ساتھ علیحدہ نہیں رہیں، کیونکہ ان کے شوہر  
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے اپنے بیٹی کی طرح رکھا تھا پھر دامد بنایا، وہ  
 ساتھ میں رہتے تھے لیکن بیٹی کو جیتی ہونے کے باوجود وہ آپ ﷺ نے ان کو دولت  
 و ثروت نہیں عطا کی نہ ایسا انتظام فرمایا کہ وہ کسی خادمہ کو رکھ سکیں، وہ گھر کا سارا کام  
 اور شوہر کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں، پانی بھی خود بھر کر لاتی تھیں، آپ ﷺ  
 نے ان کو کوئی خادم یا خادمہ مہیا نہیں کی حالانکہ خادم اور خادمائیں آتی تھیں اور آپ ﷺ  
 دوسروں کو دیتے تھے، حضرت فاطمہؓ نے عرض بھی کیا آپ ﷺ نے ان کو کچھ پڑھنے  
 کو بتا دیا مگر خادمہ نہیں دی، حالانکہ یوں بہت محبت و شفقت کرتے تھے، حضرت علی  
 رضی اللہ عنہ کا بھی بہت خیال فرماتے تھے، ایک بار حضرت علیؓ کو حضرت فاطمہ  
 رضی اللہ عنہا سے کچھ ناگواری ہوئی، جیسی شوہر و بیوی کے درمیان کبھی کبھی ہو جاتی  
 ہے، حضرت علیؓ مسجد میں جا کر لیٹ گئے آپ ﷺ کو معلوم ہوا تو خود منانے  
 تشریف لے گئے حالانکہ حضرت علیؓ آپ ﷺ سے بہت چھوٹے تھے، آپ ﷺ  
 نے ان کی پرورش بچپن سے کی تھی لیکن آپ ﷺ نے ان کو محبت کے ساتھ جگایا، فرمایا  
 ارے تمہارے جسم میں مٹی بھر گئی ہے انھو! کوئی غصہ نہیں کیا اور نہ اپنی صاحبزادی کی  
 طرف داری میں ان کو سخت بات کی، آپ ﷺ بات کرنے والے کی بات اخلاق و

ہمدردی کے ساتھ سنتے تھے، وہ کچھ مانگتا اور وہ چیز ہوتی تو ضرور دے دیتے تھے، خواہ خود کو تکلیف ہو جائے، ایک مرتبہ ایک نئی شال آپ ﷺ کے پاس آئی، کسی نے مانگ لی آپ ﷺ نے اسی وقت اس کو دے دیا حالانکہ آپ ﷺ کو ضرورت بھی تھی اور جب مانگنے والے کو دینے کے لئے آپ ﷺ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو نرم کلامی اور ہمدردی کے ساتھ اس کو واپس کرتے، آپ ﷺ اپنے صحابہ میں یوں گھل مل کر رہتے اور بات کرتے کہ نہ جانے والوں کو پریشانی ہو جاتی کہ مجھ میں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بھرت مدینہ کے موقع پر جب قبا پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ کے ساتھ دیکھنے والے نہ پہچان سکے کہ ان میں کون رسول اللہ ہیں، جب دھوپ سے آڑ کر دی، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ وہ ہوں گے جن پر دھوپ کی وجہ سے چادر تانی گئی۔

ضرورت مندوں کی مدد میں اس قدر بڑھتے ہوئے تھے اس کی مثال نہیں ملتی اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی عبادت اور خوشنودی کے لئے جوزیادہ سے زیادہ ہو سکتا تھا کرتے تھے، رات کو تہجد اتنی دیر تک پڑھتے کہ پیروں میں ورم آ جاتا، نفل روزے اتنے رکھتے کہ بعض وقت ایک ایک مہینہ گزر جاتا اور رمضان میں عبادت اور غریبوں کی مدد اپنے انتہا کو پہنچ جاتی، ایک مرتبہ ایک صحابیؓ نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ عبادت میں اتنا کیوں اپنے کو کھپاتے ہیں، آپ ﷺ کے الگ پچھلے گناہ سب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیئے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، وسیع القلب اتنے تھے کہ مکہ میں تیرہ سال سخت تکلیف دیئے جانے کے باوجود جب مکہ پر آپ ﷺ کا غلبہ ہوا اور آپ ﷺ فتحانہ شہر میں داخل ہوئے اور وہ لوگ سامنے آئے جنہوں نے آپ ﷺ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، سازش کر کے رات میں قتل کر دینے کی بھی تدبیر کی تھی،

آپ ﷺ نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو میں انتقام نہیں لیتا، دس سال مکہ میں ایذاۓ دیے جانے کے بعد طائف تشریف لے گئے تھے کہ وہاں کوئی بااثر شیخ قبیلہ اگر آپ ﷺ کی بات کو قبول کر لے تو اس سے مکہ میں آپ ﷺ کو تقویت و حفاظت مل سکے گی، لیکن وہاں کے سرداروں نے مکہ کے سرداروں کا سامنہ رویہ اپنایا، آپ ﷺ کو شہر سے نکال دیا، اوباش لڑکے پیچھے لگا دیئے جو پھر مارتے تھے آپ ﷺ کی اس کسپرسی اور بے بسی پر پروردگار کو بہت رحم آیا اس نے فرشتہ بھیجا کہ آپ ﷺ کہیں تو ان طائف والوں کے اوپر ان کے دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور ان کا خاتمہ کر دیا جائے، آپ ﷺ کو راضی نہ ہوئے اور فرمایا کہ ”اگر یہ بات نہیں مانتے تو کیا عجب ہے کہ ان کے بعد آنے والی نسل بات مان لے اور مسلمان ہو جائے“، اور سخت تکلیف اٹھانے کے باوجود انتقامی طریقہ نہیں اختیار کیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بحیثیت نبی کے بہت اونچا ہے، لیکن اسی کے ساتھ بحیثیت انسان کے اخلاق، محبت، ہمدردی، انسان نوازی، خوش اخلاقی، خاکساری، تواضع، مہماں داری، غرباء پروری، مصیبت زدوں کے ساتھ ہمدردی بھی انتہائی بڑھی ہوتی تھی، ایک طرف آپ ﷺ نبوت کے کمالات کا مظہر تھے اور دوسری طرف انسانی خوبیوں کا اعلیٰ پیکر تھے، ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ دونوں پہلوؤں سے کرنا چاہئے، ایک طرف یہ کہ اس سے ہم کو شریعت کی تعلیمات ملتی ہیں جن پر عمل کر کے خدا کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت بناسکتے ہیں، دوسری طرف یہ کہ انسانی و بشری خوبیوں اور خصلتوں کے کیسے کیسے اعلان نمونے سامنے آتے ہیں، جن کے اختیار کرنے سے دنیاوی اعتبار سے اور سماج کے اندر ہم ایک اعلیٰ خصلتوں کے انسان بن سکتے ہیں، ہم صرف روشنی کر کے اور صرف معجزات بیان کر کے خود اپنے کو بہت مسروط کر لیتے ہیں لیکن رسول پاک کو خوش کرنے کے

لئے یہ روشنی اور شاندار مظاہرے مفید نہیں، مفید تو آپ ﷺ کی حیات طیبہ کے اخذ فیض سے آپ ﷺ کی سنت کی اتباع کرنا، انسانوں کے لئے ہمدردی اور محبت و عنایت کا اختیار کرنا ہے، ہم کو دیکھنا چاہئے کہ ہم اپنے ذوق کی تسلیم اور دکھادا کرنا چاہتے ہیں یا رسول پاک کی خوشی کے کام کرنا چاہتے ہیں، ہماری سیرت پاک کی محفلوں میں اتباع سنت رسول ﷺ کو ضرور سامنے لانا چاہئے تاکہ آخرت میں آپ ﷺ سے اگر ملاقات مقدر ہو تو آپ یہ نہ فرمائیں کہ تم نے ہم کو تو خوش نہیں کیا صرف اپنے کو ہی خوش کرتے رہے اور شان و شکوه سے اپنادل بہلاتے رہے، اور ہماری سنتیں مٹتی رہیں، کتنے غریب غربت برداشت کرتے رہے اور دولت مند دولت کو صرف ذوق اور دکھاوے میں اڑاتے رہے، امت پر یشان رہی اور خوشحال لوگ مزے اڑاتے رہے۔

---

## سیرت نبویؐ میں اعتدال و توازن

ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں اعتدال کا طریقہ اختیار کرنے کو پسند فرمایا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”خیر الأمور أو سطحها“ معاملات میں بہتر وہ ہیں جو درمیانی ہوں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے متعدد موقعوں پر از خود اپنے عمل سے بتایا اور توجہ دلائی۔

آپ ﷺ کے پاس تین صحابیؓ بڑے ایمانی جذبے کے ساتھ آئے۔ ایک نے کہا کہ رات بھر میں عبادت کیا کروں گا، دوسرا نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا۔ تیسرا نے کہا کہ میں کبھی شادی نہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ متقدی اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور روزے رکھتا ہوں اور روزے سے خالی دن بھی چھوڑتا ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں، جو میرے طریقے پر نہیں وہ ہم میں نہیں ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پر ایک صحابی کہ میں بیمار ہو گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں سوچتا ہوں کہ اپنا سارا مال و متاع اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، آپ ﷺ نے فرمایا، سارا مال صدقہ نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ نصف

صدقہ کر دوں، آپ ﷺ نے فرمایا نصف نہ کرو، انہوں نے کہا ایک تھائی کر دوں، فرمایا ایک تھائی کر سکتے ہو اگرچہ وہ بھی زیادہ ہے، دیکھو! تم اپنے بچوں کے لئے اتنا مال چھوڑ جاؤ کہ وہ اس سے اپنا کام چلا سکیں یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو فقیر کی طرح چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

اسی طرح ایک صاحب اپنی ضرورتیں مانگ کر پوری کرتے تھے آپ ﷺ نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ سامان ہے، انہوں نے بتایا کہ ایک پیالہ ہے اور ایک چادر، آپ ﷺ نے کہا کہ لاو۔ آپ ﷺ نے اس کو نیلام فرمایا، وہ دو رہم میں فروخت ہوا، آپ ﷺ نے ایک درہم ان کو دیا کہ اس سے تم اپنے اور اپنے گھر والوں کے لئے کھانے کا انتظام کرو، اور دوسرے درہم سے ایک کلہاڑی خریدی اس میں وستہ لکڑی سے کاٹ کر خود لگایا اور ان صاحب کو دیا کہ اس سے لکڑی کاٹ کر لایا کرو اور فروخت کیا کرو اور اس طرح اپنی کمائی سے کام چلایا کرو۔

ایک طرف آپ ﷺ کا یہ انداز تھا، دوسری طرف یہ تھا کہ دو بھائی تھے ایک بھائی کام کا ج اور محنت کرتے، دوسرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لئے حاضری دیتے تھے تو ایک روز کام کرنے والے بھائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ میرے بھائی ہیں ہاتھ نہیں بٹاتے اپنا سارا وقت آپ ﷺ کی خدمت میں ہی رہ کر گزار دیتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم کو کام سے جو آمدی ہوتی ہے کیا عجب ہے کہ تمہارے ان بھائی کے دین سیکھنے کی برکت ہی سے ہو رہی ہو۔ یعنی آپ ﷺ نے محسوس کر لیا کہ وسیلہ اختیار کرنے کے باوجود رزق اللہ دیتا ہے اسی کی مرضی کا کام ہو تو برکت ہوتی ہے ورنہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہے۔

حضرات انصار رضی اللہ عنہم زراعتی کام کرنے والے تھے جہاد اور دوسرے

وینی کاموں کے تسلسل سے وہ کاشتکاری اور باغبانی کو ایک عرصہ تک کوئی زیادہ وقت نہ دے سکے ایک موقع پر وہ یہ محسوس کر کے کہ ہم اب اپنی کاشتکاری وغیرہ میں مسلسل لگ سکتے ہیں، ادھر متوجہ ہوئے تو ان کے کمائی کے کام میں لگ جانے سے اسلام کے بڑھتے ہوئے قافلہ کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو جانے کا خطرہ تھا اس لئے قرآن پاک میں فرمایا گیا ”وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيهِنَّمُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ“ کہ اپنے کوتاہی میں نہ ڈالو، یعنی اگر تم دنیا کی طرف (اگرچہ وہ جائز ہے) دین کا کام چھوڑ کر لگ گئے تو یہ تمہارے لئے تباہی کی بات ہوگی۔

یہ تھا وہ اعتدال اور درمیان کی راہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈالا تھا اور اس کی تربیت دی تھی کہ اپنی دنیاوی زندگی کی حسب ضرورت فکر رکھو اور اپنے دین کے حق کو بھی پوری طرح ادا کرو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”الذین يسر“ کہ مذہب آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لئے مذہب کو آسان بنادیا ہے اس پر پوری طرح عمل کرنا آسان ہے، دین پر پورا عمل کرنے سے برکت ہوتی ہے اور اللہ کی نصرت کے وعدے پورے ہوتے ہیں، امت محمدیہ کے لئے اس میں آسانی ہے اور یہی اس فلاح کی راہ ہے۔

اسلام میں دین و دنیادنوں کی رعایت رکھی گئی ہے، اس میں آسانی کے ساتھ اعتدال بھی ہے اس طرح دین پر عمل آسانی اور خوبی کے ساتھ ہوتا ہے، آدمی کو ایسے مجاہدے نہیں کرنا پڑتے کہ اس کی طاقت سے باہر ہوں، یہ ایسی نعمت ہے کہ کسی دوسرے مذہب میں نہ ملے گی، اس کے بعد مسلمانوں کا دین پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنا بہت عجیب بات بھی ہے اور افسوس کی بات بھی ہے۔

## رسول پاک ﷺ کی انسانیت نوازی اور رحمۃ اللہ علیہ نی

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی اعلیٰ خوبیوں کے ساتھ اخلاق طیبہ اتنی محبت، رحم دلی اور انسانی ہمدردی کے حامل تھے کہ اس سے زیادہ کسی انسان کے لئے ممکن نہیں، قرآن مجید میں فرمایا گیا ”إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ“ کہ آپ ﷺ عظیم اخلاق کے حامل ہیں اور فرمایا گیا ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلنَّاسِ“ کہ ہم نے تم کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ ﷺ ایک طرف تو اپنے پروردگار کو راضی رکھنے کے لئے ہر طرح کی مشقت اور تکلیف اٹھاتے اور اس کی مرضیات پر عمل کرتے، دوسری طرف سارے انسانوں کے ساتھ ہمدردی و محبت کا ایسا عمل کرتے کہ اس کی مثال نہیں ملتی، آپ ﷺ عبادت گذار اور شب زندہ دار ایسے تھے کہ رات کی نماز یعنی تہجد میں اتنی اتنی دریتک کھڑے رہتے کہ پیروں میں ورم آ جاتا، روزے اتنے رکھتے کہ رمضان سے قبل شعبان کا مہینہ بھی اکثر و بیشتر روزوں میں گزر جاتا، مال کو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتے کہ خود کوئی ایسی چیز نہ ہوتی جس کے لئے گھروں کو آگ جلانا پڑتی، کبھی کھجور کے کچھ دانے حاصل ہو گئے انہی سے کام چلا لیا اور کبھی بکری کا دودھ ہوا اسی کو پی کر مطمئن ہو گئے، کبھی کچھ بھی نہ ملا تو

یوں بے کھائے پئے رہ گئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ﷺ مال و متاع سے بالکل محروم تھے، ایسا نہیں تھا بلکہ عموماً آپ ﷺ کی ضرورت کے مطابق مال ہو جاتا تھا، مدینہ منورہ میں آپ کی کل آمد فی کچھ کھیتوں اور باغوں سے بھی ہونے لگی تھی جو آپ ﷺ کو حاصل ہو گئے تھے، لیکن آپ ﷺ کی طرف سے دوسروں کی مدد، داد و دہش اور مہمانوں کی مہمان داری اور اصحاب صفة (جود دین سکھنے کے لئے آپ ﷺ کے مکان کے سامنے مسجد کے ایک سرے پر مقیم رہتے تھے) ان کے کھانے کی ذمہ داری بھی آپ ﷺ اپنی ذاتی ذمہ داری کی طرح اٹھائے ہوئے تھے، یہ اصحاب صفة بعض بعض مرتبہ ۴ کی تعداد تک پہنچ گئے تھے، ان میں ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رض تھے جنہوں نے وہاں رہ کر خوب حدیثیں سنبھالیں اور علم دین سیکھا، چنانچہ آج حدیث شریف کا خاصاً حصہ ان ہی سے مروی ہے، ان ہی سے روایت ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، اصحاب صفة بھی بھوکے تھے کہ آپ ﷺ کے پاس کہیں سے دودھ کا ایک پیالہ ہدیہ میں آیا، آپ ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ رض کو بلا یا اور فرمایا: یہ دودھ آیا ہے سب اصحاب صفة کو بلا لاؤ، حضرت ابو ہریرہ رض فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ اتنے دودھ میں کتنے آدمی کام چلا سکیں گے، یہ تو خود آپ ﷺ پی لیتے اور کچھ بچتا تو مجھ کو دے دیتے، بجائے اس کے متعدد آدمیوں کو بلا کر پلا یا جائے کسی کا بھلانہ ہو گا، لیکن کیا کرتا، حکم تھا، میں بلا لایا، آپ ﷺ نے وہ پیالہ ایک کو دیا کہ پیو! پھر دوسرے کو دیا، پھر تیسرے کو دیا اور وہ سب پیتے رہے اور حیرت کی بات یہ کہ وہ چلتا رہا حتیٰ کہ بلا نے ہوئے سب آدمی پورے ہو گئے، پھر آپ ﷺ نے پیالہ اپنے ہاتھوں میں لیا، حضرت ابو ہریرہ رض کو دیکھا اور فرمایا! ابو ہریرہ رض ہم رہ گئے ہیں اور تم، حضرت ابو ہریرہ رض کا یوں بھی امتحان ہو رہا تھا کہ ہر پینے والے پر سوچتے ہوں گے کہ دودھ اب ختم ہوا، میری باری دیکھو آتی بھی ہے یا

نہیں آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے پر کہ اب ہم رہ گئے ہیں اور تم اور پیالہ آپ ﷺ کے ہاتھ میں ہے اور تھوڑا دودھ ہے، ظاہر ہے کہ اب آپ ہی مستحق ہیں کہ اس کو پورا کر دیں اور حضرت ابو ہریرہؓ رہ جائیں، حضرت ابو ہریرہؓ نے آپ ﷺ کے اس جملہ پر کہ اب ہم رہ گئے ہیں اور تم، کہا جی ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا! الواب تم پیو، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیا اور دودھ پھر بھی نجع گیا، میری طبیعت سیر ہو گئی، آپ ﷺ نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، آپ ﷺ نے فرمایا اور پیو! میں نے کہا یا رسول اللہ، اب طبیعت سیر ہو گئی ہے، پھر آپ ﷺ نے پیالہ واپس لیا اور اس کو پورا کر دیا۔

اس واقعہ کے اندر کئی باتیں آگئی ہیں ایک تو کھانے پینے کی چیزوں کی کمی، اور جب کوئی چیز آجائی تو آپ ﷺ سب کو دے کر کھاتے پیتے، دوسرا یہ اخلاق، کہ چیز کے کم ہونے کے باوجود سب کا خیال رکھنا اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، تیسرا اس بات کی تربیت دینا کہ دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینے کا مجاہد ہو، اور اپنے محروم رہ جانے کا خطرہ برداشت کیا جائے، چوتھے یہ کہ اگر اخلاص اور بے نفسی اور دوسروں کی ہمدردی کے جذبہ سے کام کیا جائے تو برکت ہوتی ہے اور کم چیز زیادہ آدمی کے کام آجائی ہے، یہ برکت ہر وقت نہیں ہوتی، یہ اس وقت ہوتی ہے جب جذبہ بھی اعلیٰ ہو اور مسئلہ کا حل کوئی دوسرا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور وہ تھوڑی چیز کو زیادہ کے قائم مقام بنادیتا ہے۔

اس طرح کی برکت کا واقعہ غزوہ خندق میں پیش آیا تھا اور ایک واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا تھا، جس میں اس طرح اخلاص و نیک نیتی اور ایثار کے جذبہ کی حالت میں کوئی دوسرا حل نہ ہونے پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی چیز کو زیادہ چیز کے قائم مقام بنادیا، تفصیل کی اس وقت گنجائش نہیں، بہر حال یہ بات قابل توجہ ہے کہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسا موقع آتا کہ دوسرا بھی ضرورت مند ہو تو اس کو شریک کر لیتے بلکہ اس کو ترجیح دیتے۔ اس ایشارا اور سب کی فکر کرنے کے نتیجہ میں آپ ﷺ کے پاس ضرورت کی چیز کم ہو جانا قدر تی بات تھی، چنانچہ کئی کئی فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی، حالانکہ آپ ﷺ کو اتنا مال ذاتی طور پر حاصل ہوتا تھا کہ روک روک کر خرچ کرتے تو آپ ﷺ اپنا کام اس کے ذریعہ بخوبی چلا سکتے تھے، لیکن آپ کو اپنے ساتھیوں کی، اپنے پڑو سیوں کی، اپنے مہمانوں کی اتنی فکر اور ہمدردی ہوتی تھی کہ آپ ان کی فکر، اپنی فکر کی طرح رکھتے تھے، چنانچہ آپ ﷺ نے ایک بار اعلان فرمایا کہ کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو اس کا چھوڑا ہوا مال اس کے وارثوں کا ہے اور جو وہ قرض چھوڑ گیا ہو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، بھلا یہ کون کر سکتا ہے، پھر ایک دو کے لئے اپنے تمام ساتھیوں اور ماننے والوں کے لئے، کہ فائدہ ہو تو تم لو اور نقصان ہو تو اس کی تلافی میرے ذمہ ہے۔

آپ ﷺ نے اپنے ان اخلاق و محبت کی خصلتوں سے لوگوں کے دل جیت لئے تھے، جو بھی آپ ﷺ سے ایک مرتبہ مل لیتا آپ ﷺ کا گرویدہ بلکہ فریفہ ہو جاتا، وہ دیکھتا کہ آپ ﷺ کو دنیاوی فائدے کی کوئی فکر نہیں، آپ ﷺ کو اپنی ذات کے لئے فائدہ اٹھانے سے کوئی دلچسپی نہیں، دوسروں کی ہمدردی اور دوسروں کی فکر صرف دنیاوی فائدے ہی کے لئے نہ تھی بلکہ زیادہ فکر آخرت کے فائدے کی تھی۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے آگ جل رہی ہو اور اس میں لوگ گر رہے ہوں، میں کمر پکڑ کر لوگوں کو اس سے بچا رہا ہوں، آپ ﷺ کی یہ فکراتی بڑھی ہوئی تھی کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا: ”لَعَلَكُمْ بَايِحُّ نَفْسَكُ عَلَى أَنْ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ“ آپ ﷺ شاید اپنے آپ کو ہلاک کر دالیں گے کہ یہ لوگ ایمان والے کیوں نہیں بن جاتے، اور واقعی آپ ﷺ

کڑھتے رہتے تھے کہ لوگ گمراہ ہیں ان کا آخرت میں کیا ہوگا، ان کو گمراہی سے کیسے نکالا جائے، اس کے لئے آپ ﷺ نہ زور زبردستی کرتے تھے، نہ ڈانٹنے نہ سختی کرتے بلکہ محبت سے، اخلاق کے ساتھ ان سے مخاطب ہوتے اور نرمی کے ساتھ سمجھاتے، ایک طرف آپ ﷺ کی انسانیت نوازیاں، ہمدردیاں، دوسرا طرف آپ ﷺ کی طرف سے اپنی اور دوسروں کی عافیت کی فلک اور اس فلک میں کڑھنا، یہ ایسا حال تھا کہ جو بھی اس وقت قریب سے دیکھ لیتا بالکل بدل جاتا اور آپ ﷺ کا ہو جاتا، بعض وقت کوئی شخص کفار قریش کے بہکانے پر آپ ﷺ کو قتل کرنے کے لئے آتا اور آپ ﷺ کا سامنا ہوتے ہی، آپ ﷺ کے میشے بول سننے ہی ڈھیلا پڑ جاتا تھا، ارادہ ختم ہو جاتا اور بات چیت ہوتی گردیدہ ہو جاتا اور آپ ﷺ پر فدا ہو کر لوٹتا۔

لوگوں کے فائدے اور آخرت میں نجات کی فکر آپ کے دل میں اتنی تھی کہ آپ ﷺ نہایت شفیق، ہمدرد اور محبت کرنے والے بن چکے تھے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا: "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوِيقٌ رَّحِيمٌ" کہ تمہارے پاس تم میں کا ہی رسول آیا، اس کو تمہاری تکلیف بہت شاق ہوتی ہے، وہ تمہاری بے حد فکر کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لئے تو بہت ہی ہمدردی اور رحم کا جذبہ رکھنے والا ہے۔

بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں انسانیت نوازی، اخلاق و محبت کی خصوصیات، اس قدر بڑھی ہوئی غیر معمولی تھیں کہ جس کو واسطہ پڑتا مبتاثر ہوئے بغیر نہ رہتا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ آخرت میں سرخود ہونے کے لئے آپ ﷺ کی جو توجہ دہانی اور نصیحت و دعوت تھی کہ آپ ﷺ کڑھتے رہتے تھے کہ کس طرح لوگوں کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے اور آخرت میں راحت کی زندگی

پانے کے لئے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، ایمان لا میں اور عمل صالح کریں، ایک طرف آپ ﷺ مجسم ہمدردی اور محبت تھے، دوسری طرف انسانی قدروں کے اعلیٰ درجہ کے محافظ اور داعی تھے، تیسرا طرف آپ ﷺ اپنی زندگی کو، اپنے مال و متاع کو رضاۓ الہی کے حصول اور دنیا و آخرت کی فلاح کا طریقہ بتانے اور خود اس پر عمل کرنے پر لگائے ہوئے تھے۔

---

## ساری انسانیت کے لیے نعمت و رحمت

اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس وقت ہوئی، اس وقت دنیا ماؤں ترقی کے بلند ترین مقام تک پہنچی ہوئی تھی ایران اور روم میں تمدن علم، وسائل راحت، اعلیٰ درجہ تک پہنچ چکے تھے، اس کی تفصیلات دیکھی جائیں تو حیرت ہوتی ہے، آج کے انسان نے اپنے متمدن علاقوں میں زندگی کی راحتوں کا جوسامان کر لیا ہے اس زمانہ کے جو قلبی سکون اور رہنمی راحت اس کو مطلوب تھا وہ بالکل حاصل نہ کر سکتا تھا، بلکہ وہ اس لحاظ سے ایک مصیبۃ کی کیفیت میں تھا، اور یہ کیفیت بڑھتی جا رہی تھی، جس کے پاس پیسہ اور اقتدار ہوتا ہر طرح کی نعمتوں اور راحتوں کو جمع کر لیتا، اور جس کے پاس پیسہ نہ ہوتا وہ سوسائٹی میں جانور سے بدتر حیثیت رکھتا تھا، بیل، بھینس، گھوڑے کو وہ تکلیف و بے بسی جھیلنی نہیں پڑتی تھی جو ایک غلام انسان کو یا ایک نوکر کا کام انجام دینے والے کو جھیلنا پڑتی تھی، حتیٰ کہ دولت مندوں کی معیاری دعوتوں میں محض لطف مجلس اور سرورِ محفل کے لئے کھانے کے اوقات میں غلام یا قیدی پکڑ کر لائے جاتے اور ان کو آگ لگا کر مشعل کے طور پر استعمال کیا جاتا اور لوگ دعوت کھاتے جاتے اور غلام کے جلنے اور تڑپنے سے لطف لیتے جاتے جیسے کوئی آتش بازی یا پھل بھڑی سے لطف لیتا ہے، اپنے کو اس سے برتر سمجھنے والی

تو میں دوسری قوموں کو جانور سے کمتر درجہ کی سمجھتی تھیں، اور ان کے کہنے والے کہتے تھے کہ ان کے آدمیوں کو لوٹ لینا، مارڈا النان کی زندگی اور موت سے اپنے مفاد کی خاطر کھلینا اور بر باد کر دینا کوئی جرم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر انسان کو اس ظلم سے آزادی دلائی آپ ﷺ نے نعرہ دیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، سب ایک آدم کی اولاد، ایک خدا کے بندے ہیں، نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا، اور پھر آپ نے اپنے عمل سے یہ کہ دکھا بھی دیا، کہ عربوں کے معزز ترین قبیلہ قریش کی معزز ترین شاخ کے چشم و چہار ہونے کے باوجود آپ ﷺ کے حضرت صہیب ﷺ، کا لے جبشی نسل کے حضرت بلاں ﷺ کو، سرخ ایرانی نسل کے سلمان فارسی ﷺ کو اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، اور اس طرح برابری کا معاملہ کرتے جس طرح اپنے ہم خاندان کے کسی قریش کے ساتھ معاملہ کرتے، اور آپ ﷺ نے اس پر صرف عمل کر کے دکھانے کو کافی نہیں سمجھا بلکہ اس کی بیانگ وہل تلقین کی، آپ ﷺ کے عمل اور پھر اس کی تلقین کے نتیجہ میں مساوات کی یہ رسم ایسی چلی کہ انسانی تاریخ نے پھر یہ دیکھا کہ آزاد اور معزز نسل کے مسلمان بادشاہوں کے علاوہ آزاد نسل مسلمانوں پر غلام نسل کے بھی بادشاہ ہوئے، اور اسلامی تاریخ میں بار بار ہوئے اور اس پر کسی نے یہ نہیں کہا، کہ غلام نسل کے آدمی ہم پر کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو پیغام خداوندی سنایا، اس میں سب سے اول بات یہ تھی کہ انسان کا سروائے اپنے مالک حقیقی کے جو خدائے واحد ہے کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھک سکتا، اور وہ سوائے خدائے واحد کے کسی کو حقیقی نافع یا نقصان رسال نہیں سمجھ سکتا، آپ ﷺ نے اس طرح انسان کو انسان کی بلکہ جانوروں، درختوں، ستاروں، دریاؤں اور پہاڑوں کی بندگی و عبادت سے نکال کر تنہا خدائے واحد کی عبادت تک محدود کر دیا، اسی کے ساتھ آپ ﷺ نے انسان کی

فضیلیت تمام زمینی مخلوقات پر بتائی اور ان مخلوقات کو انسان کا خادم بتایا۔ پھر آپ ﷺ نے انسان کو انسان سے محبت کرنا سکھایا، اپنے ہم مذہب لوگوں کے ساتھ اپنا سیاست اور برادرانہ محبت کرنا سکھائی، اپنے اہل خاندان کے ساتھ سلوک و تعاون کی تلقین کی پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرنے کی ایسی تاکید کی، کہ بعض صحابہ ﷺ کو شہر ہونے لگا کہ، کہ ان کو اپنے غیروں اور قرابت داروں کا مرتبہ نہ دے دیں اور وراثت میں شریک قرار نہ دے دیں، اپنوں کے علاوہ غریروں کی بھی راحت کا خیال رکھنے کی ہدایت فرمائی، اور یہ تلقین فرمائی کہ راستہ میں کوئی چیز ایسی پڑی دیکھو جس سے کسی چلنے والے کو تکلیف پہنچ سکتی ہو تو اس کو ہٹا دو، اس کام کا تم کو اجر ملے گا، آپ ﷺ کو اپنی اہلیت کی طرف سے جو غلام حاصل ہوئے تھے، ان کو آزاد فرمایا کہ ان کے ساتھ عزیز بلکہ بیٹھ جیسا معااملہ رکھا، حتیٰ کہ اپنی ایک قریب ترین عزیزی سے جو عربوں کے معزز ترین قبیلہ قریش کی فردوں میں ان کی کی شادی کر دی، اس طرح آپ ﷺ نے یہ دکھادیا کہ آقا و غلام کو کس انتہائی حد تک یکساں کیا جا سکتا ہے۔

آج دنیا نے جمہوریت و مساوات کے جو اعلیٰ سے اعلیٰ نظریات پیش کئے ہیں، اور اس کو ان پر عمل کرنے کا دعویٰ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ عملی مساوات کا ایک چھوٹا نمونہ بھی پیش نہیں کر سکتی، امریکہ آج جمہوریت کا سب سے بڑا علمبردار ہے لیکن وہ کالوں کو گوروں کے مساوی سمجھنے میں کوتاہی کرنے میں ابھی تک بخ نہیں سکا ہے زندگی کے مختلف میدانوں میں سیاست میں، تعلیم میں، معاشرت میں ہر جگہ وہاں دونوں میں فرق کیا جاتا ہے، جنوبی افریقہ میں انگریزوں نے ابھی چند برسوں قبل تک سیاسی اور سماجی زندگی میں کالوں کو عزت و احترام سے انتہائی دور رکھنے اور ان کو مکمل سمجھنے کا جو رو یہ اختیار کر رکھا تھا وہ ظلم کی انتہائی مثال ہے، یورپ میں باوجود ساری ترقیات کے آج بھی انسان انسان میں فرق کیا جاتا ہے، لیکن

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معزز ترین سمجھی جانے والی نسل اور معزز ترین شاخ کے فرد ہونے کے باوجود غلاموں اور سماجی طور پر دبے کچلے انسانوں کے ساتھ برابری، مساوات اور عزت کا جو معاملہ کیا، اور برابر کرتے رہے، اور اس کی تلقین کرتے رہے، پوری انسانی تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی، اس سلسلہ میں آپ ﷺ کی تلقین و ہدایت اور سخت تائید کے اثر سے آپ ﷺ کے ماننے والوں نے بھی اس مساوات اور انسانی ہمدردی پر اعلیٰ کارنا مے دکھائے، مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں ملک شام کا ایک بادشاہ مسلمان ہو کر حج کرنے آیا، وہ اپنے شاہی کروفر کے لباس میں مشغول طواف تھا، کہ ایک غریب اور دیہاتی کا پیر اس کے دامن پر پڑ گیا، جس سے وہ بادشاہ پھنس کر گرنے کے قریب ہو گیا، اس کو ایسا غصہ آیا، کہ اس نے اس غریب دیہاتی کو طمانچہ مار دیا۔ دیہاتی نے خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی، حضرت عمر ﷺ نے دونوں کے سماجی فرق کا لحاظ کئے بغیر بدله دلانے کا حکم دیدیا کہ بدھی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اسی طرح اس بادشاہ کے طمانچہ مارے، بادشاہ نے کہا کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں حصول انصاف میں سب برابر ہیں، بادشاہ نے ایک روز کی مهلت طلب کی حضرت عمر ﷺ نے وہ مهلت دیدی، وہ رات ہی رات بھاگ گیا، اور اسلام سے ہٹ گیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے انصاف پسند فیصلہ پر سے نہیں ہٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت نوازی، مساوات اور کمزوروں کی مدد کی جو تلقین فرمائی، اس کا اثر آپ ﷺ کی امت میں نمایاں طریقہ سے ظاہر ہوتا رہا۔ اور شاندار مثالیں سامنے آتی رہیں۔ آپ ﷺ نے صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ ہر ذی حیات کے ساتھ ہمدردی کی تلقین فرمائی، آپ ﷺ کا فرمان تھا کہ ”فی ذات کل کبد حری لكم اجر“ ہر گرم کلیجہ رکھنے والی شے کا خیال رکھنے پر تم کو اجر ملے گا۔

ظلم کو جانوروں کے ساتھ بھی روا رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ بے زبان جانور کی تکلیف دور کر دینے پر بھی اجر بتایا، اور تلقین کے طور پر کئی واقعات بتائے کہ پیاسا جانور کو پانی پلا دینے پر ایک بڑے گنہگار کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہو گئی، اور ایک جانور کو بہت دکھ دینے پر آدمی کو جہنم کا عذاب ملا۔

آپ ﷺ اس دنیا سے جب رخصت ہو رہے تھے، آپ ﷺ کی زبان مبارک پر خاص طور پر دو نصیحتیں تھیں، کہ دیکھو کہ اپنے پروردگار کی عبادت (نماز) کو قائم رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آپ ﷺ نے اس کی اہمیت اتنی محسوس کی کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی آپ ﷺ نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ امت کے لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا فليس منا“ کہ ہمارے معاشرہ میں جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ رحم و لی نہ کرے وہ ہماری جماعت میں سے نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے کمزور ہونے کی بے حد رعایت فرمائی اور ایسے احکام دیئے جن میں عورت کی عصمت کی حفاظت، اس کے باعزت مقام کا بڑا لحاظ ہے، آپ ﷺ نے عورت کو باعزت مقام دلایا، ورنہ عورت کو مرد کے لئے کھلونہ، خدمت اور راحت رسانی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا اور اس کے حقوق کو بری طرح پامال کیا جاتا تھا، اس کو پیدا ہوتے وقت ہی سے ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا حتیٰ کہ بچپنے میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آپ ﷺ نے عورت کو مرد جیسی عزت والا بنایا بلکہ بچیوں کی پرورش کا ثواب لڑکوں کی پرورش سے بھی زیادہ بتایا، اور عورت خواہ بیوی ہو خواہ ماں ہو تو اس کے حقوق علاحدہ علاحدہ اعلیٰ سطح سے مقرر فرمائے اور ان

کی ادائیگی کی تاکید فرمائی، بیٹی کا حق بیٹے کے ساتھ ضروری قرار دیا۔ اور اس کو باقاعدہ مقرر فرمایا۔ بھائی کے ساتھ بہن کا بھی حق بتایا اور اس کو بھی مقرر فرمایا، یہوی اگر شوہر کا ظلم دیکھے تو اس کے لئے علاحدگی کا طریقہ طے فرمایا۔

آپ ﷺ کی محبت و ہمدردی صرف انسانوں تک محدود نہیں رہی، نہ صرف جاندار کے ساتھ محدود رہی، بلکہ آپ ﷺ نے خدا کی دی ہوئی دولت اور دنیاوی سہولتوں کے بارے میں بھی عاقلانہ اور منصفانہ رویہ سکھایا، خرچ میں اسراف سے منع کیا، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع نہ کیا جائے، صدقہ خیرات کی تلقین فرمائی، تاکہ امیروں کی دولت غریبوں تک بھی پہنچے زکوٰۃ کے ذریعہ زائد دولت رکھنے والوں پر غریبوں کی مدد لازمی کر دی تاکہ اس دنیا کی دولت و ثروت ایک جگہ اکٹھا ہو جانے سے ضائع نہ ہو، عبادات میں روزہ کا بھی حکم سنایا، جس کے ذریعہ ہر مسلمان کو بھوک و پیاس کی ایک سالانہ مشقت سے گزرنा ہوتا ہے، تاکہ اس کو محسوس ہو کہ بھوک و پیاس کیا چیز ہے، اور بھوک کا انسان کیسا ہوتا ہے اس کا احساس رہے، اور کم وسائل زندگی رکھنے والے کی تصور مسلمان کے ذہن میں قائم رہے۔

اور صرف یہی نہیں بلکہ زندگی اور اپنی ارد گردی دنیا میں جو کچھ ہے، اس سے فائدہ اٹھانے اور اس سے فائدہ پہنچانے کے طریقے بتائے، ایسے طریقے کہ ان پر عمل کرنے سے دنیا کا سارا نظم درست ہو جاتا ہے۔ اور برا بیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور اس نظام پر عمل کیا جائے تو ساری دنیا، اعتدال، انصاف، امن اور بھائی چارگی کے ماحول میں چین و اطمینان اور خوش حالی کی زندگی گزار سکتی ہے، اور اس پر مزید یہ کہ اس دنیا کے ختم ہونے پر جب آخرت کی زندگی آئے گی تو وہاں مزید کا میابی اور راحت و عافیت حاصل ہوگی۔

آپ ﷺ ان عظیم تعلیمات اور خود ان پر پورا عمل کرنے کے باعث عالم

بلکہ سارے عالموں کے لئے امن و راحت کے پیام بر بنے اور مساوات اور امن و راحت کا راستہ بتانے اور راستہ ہموار کرنے کی وجہ سے رحمۃ للعالیین ثابت ہوئے، جس کی شہادت خود خدا تعالیٰ نے اپنے فرمان میں دی ہے کہ ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ کہ ہم نے تم کو مخصوص طور پر تمام دنیا جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام مادائیمین متلازمین الی یوم الدین۔

---

## نبوٰت محمدی ﷺ کی تکمیل و اتمام

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ کبھی شک و تردید کا مسئلہ نہیں رہا، کوئی شخص شہرت اور جھوٹی عزّت کے حصول کے لیے اس میں شبہ ڈالے تو کبھی کبھی چند کم سمجھ لوگ اور وہ لوگ جن کے ذہن تضاد کا شکار رہتے ہیں اور جو اپنے دماغ کے الجھاؤ کے باعث سیدھی بات سمجھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، وہ ایسے غیر حقیقت پسندانہ دعویٰ کو مان لیتے ہیں جو کہ کوئی شاطر آدمی یا الجھے ذہن کا شخص کر دیا کرتا ہے۔

انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ تاریخ میں سچے نبیوں کی نقل میں جھوٹے نبی بھی آتے رہے ہیں اور وہ سیدھے سادے عوام کو دھوکہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن جھوٹی اور غیر منطقی بات زیادہ نہیں چلتی ہے اور سطحی قسم کا فریب جلد کھلتا رہا ہے، چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسود العفی، طلیحہ، اور مسیلمہ کذاب اُبھرے اور ناکام رہے۔ گذشتہ انبیاء کے زمانوں میں چونکہ خدا کو نبیوں کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلانا تھا، اس لیے اس نے ختم نبوت کا فیصلہ آپ ﷺ سے قبل نہیں سنایا، کیونکہ آپ ﷺ کے زمانہ تک قوموں اور امتوں کے بدلتے ہوئے مزاجوں کے لحاظ سے شریعت اور دین میں جو ترمیم و اضافہ فرمایا جانا تھا یہ ترمیم و اضافہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، کیونکہ

آپ ﷺ کے زمانہ سے تا قیامت انسانی برادری کے مزاج میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہ ہوگی، اس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
وَ رَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ط

”آج یعنی اب میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے بحیثیت دین پسند کیا“

دین مکمل ہو جانے کے بعد نبی کی ضرورت ختم ہو گئی کیونکہ اب کوئی نئی بات بھی جانا نہ رہی، اب دین کو صرف پھیلانے اور عام کرنے کا کام رہ گیا تھا، جس کو علمائے دین اور دائیٰ حضرات، بخوبی انجام دے سکتے ہیں اور انجام دے رہے ہیں، اور معمولی اور چھوٹی باتوں کے لیے ان کو اجتہاد کا حق بھی ملا ہوا ہے، نعمت کو پوری کر دینے سے واضح ہوا کہ جو سلسلہ اور تسلیم نبیوں کے آتے رہنے کی نعمت کا تھا وہ تسلسل پورا ہو گیا اب نبیوں کے آتے رہنے کا سلسلہ نہ رہے گا، چنانچہ قرآن مجید میں آپ ﷺ کو خاتم النبیین قرار دیا گیا، خاتم ختم کرنے والے کے معنی میں لیا جائے یا مہر کے معنی میں لیا جائے جو خط اور دستاویز کے ختم ہو جانے کی علامت ہوتی ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ آپ ﷺ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ ﷺ سے قبل انبیاء کے تسلسل کے زمانے میں ہر ایک نبی اپنے بعد کے نبی کی اطلاع دیتا تھا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اطلاع دی کہ وَمُبَشِّرًا مِّبْرَسُولٍ يَأْتُى مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ ”میں بشارت دیتا ہوں ایک نبی کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔“ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بر رسول یعنی صرف ایک رسول کے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نبی آنا ہوتا تو صرف ایک رسول

کی بشارت نہ دیتے بلکہ رسولوں کا لفظ استعمال کرتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ تھا اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کے آنے کی خبر دی بلکہ اس کے برعکس فرمایا ”ولکن لا نبی بعدی“ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ بہر حال عقل و نقل کے بکثرت دلائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا لیکن گمراہی میں بتلا ہونے کے جہاں بہت سے میدان رہے ہیں وہاں نبوت کے جھوٹے دعوے کا بھی ایک میدان رہا ہے، البتہ گمراہی کے دوسرے میدان عقل کی بے راہ روی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن جھوٹی نبوت کا میدان اسلام کے احکام سے اور مذہب کی ضرورت و تقاضے سے غافل رہنے اور آسانی سے دھوکا کھا جانے والوں کے ساتھ مخصوص رہا ہے، چنانچہ غلام احمد قادریانی نے ہی نہیں بلکہ تاریخ میں متعدد اشخاص نے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، چند آدمیوں نے دھوکا بھی کھایا اور ان کو نبی مان لیا، لیکن بات زیادہ نہ چل سکی اور سب ناکام رہے، لیکن چونکہ غلام احمد قادریانی کو برطانوی حکومت کا سہارا حاصل رہا بلکہ اسی کے ایماء سے یہ کام کیا گیا اور برطانیہ کی حکومت زبردست وسائل اور اثر رکھنے والی تھی اور شاطرانہ چالوں سے بھی خوب واقف تھی، وہ اسلام کے صحیح عقیدے کو بگاڑ کر مسلمانوں کی اسلامی طاقت کو پارہ کرنا چاہتی تھی چنانچہ غلام احمد قادریانی کو ہوادی اور پشت پناہی کی جس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ غلام احمد قادریانی نے برطانوی سامراج کی بڑی تعریفیں کی ہیں، اس کو اللہ کی رحمت و نعمت قرار دیا ہے اور اس کی مخالفت کو بُرا قرار دیا ہے حالانکہ اس حکومت نے مسلمانوں کو ہندوستان میں اور باہر کی دنیا میں بہت نقصان پہنچایا اور دشمنی کی، ہزاروں ہزار کو قتل کیا پھر وہ کافروں کی حکومت تھی، کیا کسی نبی کا یہ کام ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی حکومت کی تعریف کرے؟ انگریزوں کی طرف سے غلام احمد قادریانی کی سرپرستی اور تائید خود برطانیہ

میں محفوظ ایک دستاویز سے بھی ثابت ہو چکی ہے اور اب بھی یہ سلسلہ قائم ہے، برطانیہ اور مغرب و مشرق دونوں کی اسلام مخالف طاقتیں اس جھوٹی نبوت کی ترویج میں برابر سہارا دے رہی ہیں ان ہی کے سہارے اور مدد سے جھوٹی نبوت کا یہ فتنہ بھی تک قائم ہے بلکہ اثر ڈال رہا ہے اور چونکہ یہ ایک فتنہ بننا ہوا ہے اس لیے اس کو ختم کرنے کے لئے مسلمان علماء اور داعیوں کو زیادہ فکر و توجہ کی ضرورت پڑ رہی ہے اس کے لئے زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے صرف اس کی حقیقت اور دھوکے بازی سے لوگوں کو ٹھیک طریقہ سے واقف کر دیا جائے تو فتنہ خود ختم ہو جائے گا، علماء نے اس کے باطل ہونے کے سلسلے میں اپنے موقعوں پر وضاحت کی ہے اور آج کے زمانے میں بھی وضاحتوں کی ضرورت ہے کیونکہ غیر مسلموں پر جو اسلام کی حقانیت سے واقف نہیں اور خود سادہ لوح کچھ مسلمانوں پر اس جھوٹی نبوت کا فریب اب چل جاتا ہے اور خاص طور پر ایسی صورت میں کہ قادیانی تحریک بڑی دولت اور وسائل کی مالک ہے اور وہ اپنے غیر مسلم ہمدرد طاقتوں کے سہارے جگہ جگہ لوگوں کو گراہ کرنے کا جال پھیلاتی جا رہی ہے لہذا علمائے دین اور اہل غیرت مسلمانوں کا فرض ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و خاتمتیت کے خلاف کی جانے والی سازشوں کا مقابلہ کریں۔

یہاں ایک بات ضرور پیش نظر رکھنا چاہئے کہ قادیانی مبلغ جھوٹ سے بھی خوب کام لیتے ہیں اور موقع دیکھ کر اس بات سے انکار کر دیتے ہیں کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ غلام احمد آپ ﷺ کے ماتحت بنی تھے لہذا ان کے دھوکہ کو سمجھنا چاہئے، ان وضاحتوں سے اس جھوٹی نبوت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس فتنہ کو ختم فرمائے اور گمراہوں کو بُدایت کے نور سے منور فرمائے۔ (آمین)

## دعوتِ دین اور اسوہ نبوی ﷺ

دعوتِ دین وہ عمل ہے جس کے نتیجہ میں اصلاح کی اور عملِ صالح کو اختیار کرنے کی صورت پیدا ہوتی ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعہ ایک آدمی صرف اپنے ہی عمل کے ثواب کا مستحق نہیں ہوتا بلکہ ان تمام لوگوں کے ثواب کا بھی مستحق بن جاتا ہے جو اس کے کمبے اور متوجہ کرنے سے حق قبول کرنے والے اور عملِ خیر کرنے والے بن گئے وہ دو چار بھی ہو سکتے ہیں سیکڑوں اور ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح امت میں بعض بعض حضرات کے ثواب کا اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے جن کی دعوت کے اثر سے ہزاروں اور لاکھوں کی اصلاح ہوئی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ثواب حاصل ہو رہا ہوگا، خود ان کے عمل کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، پھر ساری امت کے اعمال کے ثواب کے برابر بطورِ مزید ان کو ملے گا، کیونکہ سب اصلاح ان ہی کی دعوت کا نتیجہ ہے۔

لیکن دعوت کا کام ایک طرف تو بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، دوسری طرف یہ کام بڑی دانائی، حکمتِ عملی اور نفس کشی کا کام ہے اس کام کے ساتھ خود اپنے کو بھی معیارِ صلاح و احتیاط پر رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ بے عمل کی

دعوت کا اثر مدعا پر بہت کم پڑتا ہے، اور اسی طرح مدعا کے حالات و مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت و موقع محل کا لحاظ کر کے بات کرنا ہوتی ہے، اس سلسلہ میں اپنی راحت و پسند کی قربانی بھی دینا پڑتی ہے، ان باتوں کی رعایت کرنے پر بعض وقت بغیر کچھ کہے بھی اثر پڑ جاتا ہے، بعض وقت صاف طریقہ سے بات کہنے کے لئے مناسب وقت کے انتظار میں بڑا صبر کرنا پڑتا ہے اور نصیحت کرنے پر سخت وست بھی سننا پڑتا ہے اور اس کو جھیلنا پڑتا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ کام مشکل اور مجاہدہ کا کام بن جاتا ہے، لیکن اس کے لئے جو اجر بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اس کا دھیان کرنے پر ساری زحمت کا فورہ وجہتی ہے۔

مسلمانوں کو خیر و صلاح کی طرف دعوت دینے میں اتنی زحمت و حکمت کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی غیر مسلموں کو حق کی راہ پر لانے میں ہوتی ہے، وہاں اس کام میں زیادہ حکمت عملی، خوش اخلاقی اور موقع محل کے لحاظ کی ضرورت ہوتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے نو سو پچاس سال محنۃ کی اور توجہ و برداشت کے ساتھ کام میں لگے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دہائی سے زیادہ وقت اس کام میں صرف کیا، طرح طرح کی ایذا رسانی برداشت کرنا پڑی، لیکن بہت دردمندی اور بُردباری کے ساتھ کام میں لگرہے، آپ ﷺ پر گندگی پھینکی گئی مگر آپ ﷺ مشتعل نہیں ہوئے، آپ ﷺ کو پا گل، جادوگ اور مفسد کہا جاتا اور آپ ﷺ صابر و سکون کے ساتھ سب سنتے اور نظر انداز کرتے، پھر مستزادیہ کہ کہنے والے خاندان کے ہی لوگ تھے، اور آپ ﷺ خاندانی عزت و اثر میں ان کہنے والوں سے کم بھی نہیں تھے، اگر چاہتے تو سخت جواب دیتے اور دانت کھٹے کر دیتے، لیکن آپ ﷺ نے دعوت کی مصلحت کی خاطر برداشت کیا، اور جب بھی موقع مناسب پایا بڑے سے بڑے

مخالف سے مل کر بہت خوش اسلوبی سے بات کہی لیکن آخر میں جب ان اعز و حکم اقارب نے مکہ میں آپ ﷺ کا رہنا بھی مشکل بنادیا تو اپنے پروردگار کی اجازت و حکم سے بھرت فرمائی، اور مکہ چھوڑتے ہوئے وطن عزیز کو خیر باد کہنے کا جواہر طبیعت پر ہوتا ہے وہ برداشت کیا، جو آپ ﷺ کے اس جملہ سے ظاہر ہوتا ہے جو آپ نے وطن چھوڑتے ہوئے فرمایا کہ ”اے مکہ ہم تم کونہ چھوڑتے لیکن تمہارے رہنے والوں نے ہم کو رہنے نہیں دیا“ مکہ آپ ﷺ کا صرف وطن ہی نہ تھا بلکہ کعبہ کی وجہ سے قلب و دماغ کا مرکز بھی تھا لیکن دعوت دین کی خاطر آپ ﷺ نے اس کو چھوڑا، کوئی کشمکش نہیں کی، اور نہ انتقام لینے کو سوچا، کیونکہ اس سے دعوت کا کام متاثر ہوتا، پھر مدینہ جا کر چند برس کی جدوجہد کے بعد صلح حدیبیہ یعنی نفس کشی کا کام کیا تاکہ دشمنوں کی دشمنی کچھ دنوں کے لئے موقوف کر سکیں، اور اس طرح مسلمانوں کی دین کی دعوت پُر سکون اور آپسی ہمدردی کے ماحول میں پیش کر سکیں، چنانچہ اس کا غیر معمولی اثر پڑا کہ ان دو سالوں میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ اس سے قبل کی ساری مدت میں مسلمان ہونے والوں سے زیادہ تھے۔

جب معاشرہ مشترک طرز زندگی کا ہو، اور اقتدار اور حکومت کا اس سلسلہ میں مفید کردار ہو تو صرف محبت و ہمدردی اور دل سوزی ہی ذریعہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی اعلیٰ مثالیں ہیں، حق سے روگروں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تودہ جو سرے سے مذہب ہی کو نہیں مانتے جن کو دینی اصطلاح میں مُلِحَّد کہا جاتا ہے، ان کو حق کی طرف مائل کرنے کے لئے مذہب کی خوبیوں اور برکتوں اور نعمتوں سے روشناس کرانا ہوتا ہے، ان کو بتانا ہوتا ہے کہ تم میں بے خدا ہونے کی صورت میں زندگی کس قدر خشک اور بے مزہ ہو جاتی ہے اور سکون قلب سے کس قدر دور ہوتی ہے ملکہ کو ترغیب دینا ہے کہ وہ مذہب کے تسکین بخش ہونے کی

صفت کا تجربہ تو کر کے دیکھئے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش تو کرے، دوسری طرف کے روگردان اشخاص وہ ہوتے ہیں جو مذہب کو تو مانتے ہیں اور خدا کو بھی مانتے ہیں لیکن راہِ حق و دین صحیح سے منحرف ہوتے ہیں وہ آخری نبی اور آخری دین کو نہ ماننے کی وجہ سے ان کو مانتے نہیں ہیں خدا نے واحد پر انحصار ان کے مذہب میں نہیں ہوتا ایسے اشخاص کو دینِ حق سے قریب لانے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ قریب ہو کر دینِ حق کا توحید و رسالت کا مطالعہ کر سکیں، اور اس کی خوبی کو سمجھ سکیں، ایسے اشخاص کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہوتا ہے اور حسن سیرت سے ان کو اپنے سے قریب کرنا ہوتا ہے، ان سے ایمان کی بات بتانا ہوتی ہے ایمان کی دعوت دینا ہوتی ہے، ایمان وہ جملہ حق ہے جو ہر مذہب کا ماننے والا سنتا اور دھیان دیتا ہے اس لئے کسی بھی شخص سے ایمان کے حوالہ سے بات کہی جاسکتی ہے وہ اس کو آسانی سے سنے گا اور اگر اس کے دل کو یہ بات چھوٹی تو اس سے متاثر ہو گا، ایمان کا تعلق دل سے ہے دلکش و جماعت کا تعلق عقل سے ہے، عقل خوب پینترے جانتی ہے، اس کو شکست دینا آسان نہیں ہوتا لیکن دل کو جب بات اچھی لگ جائے تو دل مائل ہو جاتا ہے وہ دل مائل کے چکر میں زیادہ نہیں پڑتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کے سامنے بات رکھی تو خالق اور پروردگار کو ایک ماننے کی بات رکھی اور انسانوں کے ساتھ ہمدردی، مظلوموں کی مدد، مہمان کی خاطرداری مسافر کی مدد، جیسے کاموں کی تلقین کی، اور اس کی دعوت دی یہ وہ حکمت اور طریقہ تھا جو دلوں کو جلد متاثر کرتا ہے، غیر مسلموں کو قریب کرنے کے لئے اس کی نقل کی جاسکتی ہے، ہمدردی و انسانیت نوازی اور ایمان باللہ وحدہ، ایمان بالرسول و خاتم المرسلین کو ملانے سے وہ عظیم دعوت بن جاتی ہے جس میں ایک خاص برکت اور تاثیر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی پیروی ہے جو آپ ﷺ نے مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران اختیار

فرمائی تھی، آپ ﷺ کو ایذا میں دی گئیں لیکن آپ نے صبر کیا، سخت سست کہا گیا لیکن آپ ﷺ نے برداشت کیا اور اخلاق و محبت کے ساتھ ہمدردی اور حکمت کے ساتھ کام جاری رکھا اور ایک ایک کر کے لوگ متاثر ہوتے گئے، اور جس نے اثر لیا وہ آپ ﷺ کا گرویدہ ہو گیا، دراصل دعوت کے کام میں مدعو کے دل میں اثرات کی ضرورت ہوتی ہے اپنے کو اس کا خیر خواہ اور مخلص محسوس کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنے مخلص و خیر خواہ کی بات سنتا ہے اور جس کو وہ مخلص و خیر خواہ نہ سمجھے اس کی بات پر دھیان ہی نہیں دیتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کے سلسلہ میں جو ہدایات یا وضاحتیں فرمائی ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کام خیر خواہی کے جذبہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خیر خواہی اتنی محسوس کرائی ہے کہ حیرت ہو جاتی ہے، عبد اللہ بن ابی اپنے قبیلہ خزرج کا بڑا مقبول سردار رہ چکا تھا، قبیلہ کے ساتھ وہ بھی اسلام لایا، لیکن اسلام اس کے حلق سے نہیں اتراتھا، وہ اپنے کو مسلمان ثابت کرتا، لیکن اندر اندر دشمنی کرتا، ظاہر میں مسلمان ہو گیا تھا اس سے اس کا قبیلہ اس سے ہمدردی رکھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی رعایت میں یہ جانتے ہوئے کہ وہ منافق ہے بلکہ اس کی طرف سے آپ ﷺ کو وقار فتوح ساخت ایذا پہنچتی تھی لیکن اچھا برتاؤ رکھا، بلکہ ایک سفر کے دوران عبد اللہ بن ابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی طرف آتے ہوئے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مدینہ پہنچ کر مدینہ کے معزز لوگ ان گھٹیا اور ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے، جس کا صاف مطلب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مہاجرین کے لئے وہ کہہ رہا ہے، یہ ایسی بات تھی کہ خود عبد اللہ بن ابی کے بیٹے کو بڑی لگی ان کو یہ خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس با غیانہ حرکت پر ان کے

باپ کو سخت سخت سزادے سکتے ہیں، یا خود مسلمان ناراض ہو کر اس کو قتل کر سکتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے باپ نے اسی گندی بات کہی ہے اس پر وہ لائق قتل ہو سکتے ہیں، میں خپال کرتا ہوں کہ قتل کا کام اگر کوئی مسلمان کرے گا تو میں انسان ہوں فرزند ہونے کے ناطے مجھ پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے جو میرے ایمان کے لئے مضر ہو گا الہذا یہ کام لینا ہو تو مجھ سے ہی لے لیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا نہیں بلکہ میں ان کے ساتھ اچھا برداشت کروں گا، آپ ﷺ کے اس عمل کا ایسا اثر پڑا کہ جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا یہ قافلہ داخل ہوا تو عبد اللہ بن ابی کے بیٹے راستے پر کھڑے ہو گئے اور باپ کی آمد پر تلوار دکھا کر کہاں لیجئے، معزز و موقر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہیں اور ذلیل اور پست آپ ہیں، اب سن لیجئے آپ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر داخل بھی نہیں ہو سکتے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدہ کو برابر بھایا کہ عبد اللہ بن ابی کے ساتھ تاحیات خوش اخلاقی کا، ہی معاملہ رکھا، خوش اخلاقی اختیار کرنے کے سلسلہ میں قرآن کی ہدایت یہاں تک آئی کہ اگر کوئی مشرک تمہاری حفاظت میں آئے تو اس کو حفاظت کے ساتھ اپنے پاس ٹھہراو، اس طرح اللہ کا کلام سنے گا پھر اس کو اس کی حفاظت کی جگہ تک پہنچا دو۔

صوفیائے کرام علمائے ربانی اور بزرگانِ دین نے دعوت کی خاطر احکامِ خداوندی اور اسوہ نبوت کو پوری طرح اختیار کیا، اسی کا اثر ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، اس سلسلہ میں ان کے بے شمار واقعات ہیں جن سے ان کی محنت، وصیر و برداشت، عام انسانی ہمدردی خیرخواہی، دوستوں کے ساتھ اخلاص و محبت و شمنوں کے ساتھ بھی رعایت و خیرخواہی کی اعلیٰ مثالیں ملتی ہیں، یہ وہ

طریقہ عمل ہے جس سے دین تو دین ہے دنیا بھی عافیت و خیر کی بن جاتی ہے،  
 چنانچہ ایک شاعر نے کہا ہے۔  
 آسانش دو گیتی تفسیر ایں دو حرف است  
 بادوستاں تلطیف ، با دشمناں مدار

---

# نبی اکرم ﷺ کا طریقہ دعوت و تبلیغ

## اور عصری تحریکات

مسلمان داعیوں کے لئے کامل و مکمل نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے طریقہ کار کو مصالحانہ رکھا، اور سختی و نکراو کا رویہ اسی وقت اختیار کیا جب مخالفوں نے سختی کا جواب سختی سے دینے پر مجبور کر دیا، آپ ﷺ نے اسلام کی صلح پسند تصویر کو اپنے نرم خوردی سے ظاہر کیا جس میں اخلاص و خیرخواہی کا جذبہ صاف ظاہر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرصہ دراز تک کریم افسوسی کے ساتھ صبر کیا، مسلمان بھی آپ ﷺ کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ذلت و رسوانی اور دیگر مصائب سے دوچار ہوئے، حتیٰ کہ اس کا تذکرہ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، جیسا کہ حضرت ابو عبد اللہ بن حبیب بن ارت ﷺ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے فریاد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چادر کا نکیہ بنائے ہوئے تھے اور ہمارا حال یہ تھا کہ مشرکین کے سخت مظالم سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا، تو ہم نے عرض کیا کہ کیا آپ ﷺ ہمارے لئے ایسی صورت میں مدد نہیں چاہیں گے اور دعا نہیں کریں گے، تو آپ ﷺ

نے فرمایا، سچھلی امتوں کے کسی فرد کو پکڑا جاتا اور اس کے لئے گذھا کھودا جاتا، پھر اس میں ڈال دیا جاتا، پھر آری اس کے سر پر رکھ کر اس کے دو تکڑے کر دیئے جاتے، اور لوہے کی سکنگھیوں سے اس کا سر چھیدا جاتا، تو صرف گوشت اور ہڈی باقی رہ جاتی اور یہ چیز اس کو دین سے نہیں روک پاتی تھی، ”خدا نے ذوالجلال کی قسم اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعت سے حضرموت تک سفر کرے گا اور اللہ کے سوا وہ کسی کا خوف محسوس نہیں کرے گا، حتیٰ کہ چدوا ہے کو اپنی بکریوں پر کسی بھی سریعے کا ڈرنہ ہو گا، لیکن تم عجلت بازی سے کام لیتے ہو۔“

(بخاری شریف)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کا دوسرا نمونہ اسی سے متعلق یہ ہے کہ آپ نے مقامِ حدیبیہ میں صلح و مصالحت قائم کرنے کا وہ اہم فریضہ انجام دیا، جس کی وجہ سے ساری کشکاش ختم ہو گئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہی سے کفار اور مسلمانوں کے مابین جاری تھی، اور دونوں میں ایسی صلح ہوئی جس نے مسلمانوں کو اس بات کا موقع دیا کہ وہ اسلام کی فطری تصور کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کریں، اور کفار کے لئے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ لوگ اس تشدد سے دور رہ کر جس کا لازمی نتیجہ اختلاف اور جنگ کی سیاست تھا، اسلام کا بغور مطالعہ کریں، اسی وجہ سے صلح کے دو سالہ عرصہ میں اسلام کے مخالفین کو اسلامی زندگی کی انسانیت نوازی و کریمانہ اخلاق کو تقریب سے دیکھنے کا موقع ملا اس کے بعد میں وہ اسلام میں اتنی تعداد میں داخل ہوئے جتنے اس سے پہلے کی پوری مدت میں بھی نہیں ہوئے تھے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ نرم مصالحانہ طریقہ کا رعصر حاضر میں دعوت و تبلیغ کے کام کا بہترین نمونہ ہے، جو حقیقی اسلام سے بعد کے سبب اس جاہلی دور کے مشابہ ہے، جس میں اللہ کے رسول ﷺ نے اہل عرب کو دعوت اسلام

پیش کی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان داعیوں نے عہد اول ہی میں جو آپ کی بعثت سے سترہ سال کی مدت پر محیط ہے قسم قسم کے مصائب و مشکلات کا سامنا کیا، لیکن ان حضرات نے اسلامی دعوت کی مصالحانہ روشن کو باقی رکھا، اس مسئلہ کو سیاست و قیادت اور جدال و انتقام کا مسئلہ نہیں بنایا، کیونکہ انتہائی مقابلہ آرائی کا طریقہ کارائیک ایسا طریقہ کا رہے جو اپنی فلاج ونجات کے لئے عموماً مکروہ فریب حیلہ سازی و چالبازی کے ذرائع کے استعمال کا مرتضاضی ہے، اور جب بھی کوئی اس طرز کو اختیار کرے گا، اور اس پر کسی بھی دعوت کی بنیاد رکھے گا تو جاہلوں اور اس کی حقیقت سے نا آشنا لوگوں میں یہ دعوت ایک سیاسی تحریک کی شکل میں ظاہر ہوگی، جس کا بانی اور اس کا قائد اچھے برے کسی بھی حیلہ و تدبیر سے غلبہ و اقتدار کو پہنچنا چاہتا ہے، اور وہ سمجھیں گے کہ یہ اسی غلبہ و اقتدار کی لائچ اور حرص کی بنیار پر ہے، جو اس کے خواہش مند حضرات کے دلوں میں جنم لیتی ہے، یا جاہ و منصب، مال و دولت اور سلطنت و حکومت حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسانی خمیر اور جبلت میں داخل ہے، اور اسی کا گمان عام حالتوں میں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، یہ صورت حال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش آئی کہ ایک دن عتبہ بن ربیعہ نے کہا جو اپنی قوم کا سردار تھا اور قریش کی محفل میں حاضر تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ خدا میں تھا تھے، اس نے کہا: اے قریشیو! کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور ان سے بات کروں اور ان کے سامنے چند باتیں پیش کروں، شاید کہ ان میں سے بعض کو قبول کر لیں، تو ہم ان کی خواہش کے مطابق ان کو عطا کر دیں، تاکہ وہ اور ہم دونوں آرام سے رہیں، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ حضرت حمزہ رض جلد ہی حلقة بگوشِ اسلام ہوئے تھے اور کفار

قریش نے دیکھا کہ آپ ﷺ کے تبعین کی تعداد میں روز افزول اضافہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا: کیوں نہیں، ضرور بالضرور، ابوالولید! ان کے پاس جاؤ، اور ان سے بات کرو، لہذا وہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ ﷺ کے قریب بیٹھا، اور کہا، بھتیجے! تمہیں جو خاندانی برتری اور عالی نسبی حاصل ہے اس سے تم اچھی طرح واقف ہو، اپنی قوم کے پاس ایک ایسا معاملہ لے کر آئے ہو جس سے تم نے ان کی جماعت کو منتشر کر دیا ہے، اور ان کے عقل مندوں کو کم عقل ٹھہرایا اور ان کے معبودوں اور ان کے دین کی تحریر و تذلیل کی ہے اور تم نے اسی کی وجہ سے ان کے پرکھوں اور اسلام کی تکفیر کی ہے تو میری سنو! میں تمہارے سامنے چند امور کھتا ہوں تم اس کے تین غور کر لو، شاید کہ بعض کو قبول کر لو، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابوالولید! جو کچھ کہنا ہے کہو، میں ہمہ تن گوش ہوں، تو اس نے کہا، بھتیجے! اگر تمہیں اپنے لائے ہوئے دین کے بد لے مال کی خواہش ہے تو ہم تمہارے سامنے مال کا ذہیر لگادیں گے حتیٰ کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، اور اگر تم عزت و سرداری کے خواہاں ہو تو ہم تم کو اپنا سردار بنالیں گے، حتیٰ کہ کوئی فیصلہ بھی بغیر تمہارے طنہیں کریں گے، اور اگر تمہیں بادشاہت کی تمنا ہے تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنالیں گے، اور اگر کسی جنون کی وجہ سے یہ سودا سوار ہے، جس کا ازالہ نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لئے علاج و معالجہ کی مذہبیر کریں گے، اور ہم اپنے اموال کو اس میں بے دریغ صرف کریں گے، حتیٰ کہ تم اس سے صحت یاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی انسان کا موکل جن خود اس پر سوار ہو جاتا ہے جب تک اس کا علاج ہے کرایا جائے اور اسی جیسی دیگر باتیں کہیں، جب عتبہ اپنی بات سے فارغ ہو جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سن رہے تھے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ابوالولید! کیا تم اپنی بات کہہ چکے ہو، اس نے کہا جی ہاں! تو آپ ﷺ نے فرمایا تواب میری سنو! اس نے کہا فرمائیے، میں

سن رہا ہوں تو آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

”خَمَّ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، كِتابٌ فُصْلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ“ (حُمَّ سجدة: ۳-۱)

”حَمِيمٌ۔ اتارا ہوا ہے بڑے مہربان رحم و اے کی طرف سے۔

ایک کتاب ہے کہ جدا جدا کی ہیں اس کی آیتیں قرآن عربی زبان کا ایک سمجھہ والے لوگوں کو“

یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت و اصلاح کے میدان میں ہمارے لئے اسوہ جس کے حیرت انگیز نتائج سامنے آئے اسی لئے صحیح حدیثیہ میں جتنی بڑی تعداد مشرکین کی اسلام لائی وہ اس سے پہلے نہیں لائی تھی اس لئے کہ اس سے پہلے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت صحابہؓ کو اتنا قریب سے زندگی گزارتے ہوئے اور معاملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا بعد میں بھی جب جب مسلمانوں نے یہ طریقہ کاراپنایا، اور اس اسوہ نبوی کو سامنے رکھا تو انقلاب پیدا کر دینے والے واقعات رونما ہوئے دشمن دوست بن گئے اور حملہ آور اسلامی سرحدوں کے محافظ و امین بن گئے لیکن ہمارے سامنے بہت سی ایسی دعوییں اور تحریکیں ہیں جنہوں نے ابتداء ہی سے تشدد و نکراوہ والی سیاست اپنائی تو وہ لوگوں کو باور کرانے میں ناکام رہیں کہ وہ دعوت خیر ہیں، اور وہ لوگوں میں حق و انصاف، نیکی اور بھلائی کو پھیلانا چاہتی ہیں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ان دعوتوں کی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی گذر رہے، جس میں ان کے قائدین اور متعین نے اچھے کاموں اور انسانی خدمات اور مخلصانہ جدوجہد سے ایک طویل زمانے تک اخلاق و صفاتِ عالیہ سے اپنے کو متصف رکھا، حتیٰ کہ انھیں عوام الناس میں اپنی اچھی نیتوں اور خیرخواہی کی وجہ سے اچھی شہرت ملی۔

لیکن ہم اس کی بہت ساری مثالیں تاریخ اسلام میں پاتے ہیں، جس کے وہ ممالک گواہ ہیں جن پر مسلمانوں نے خاص جنگی طریقہ پر یورش کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ممالک مخلصانہ طور پر ان کے تابع نہیں ہوئے، بلکہ جب بھی مسلمانوں کی مادی طاقت کمزور پڑی تو ان کے خلاف ایک نہ ایک دن صورتحال پلٹ گئی، البتہ یہ ضرور ہوا کہ ایسی حکومت میں صحیح طریقہ کار کے مخلص اور اہل صلاح و تقویٰ نے اچھے اخلاق کا ثبوت دیا اور انسانی فضائل و مکار م کو دلوں اور جانوں سے قریب کرنے کا کام لوگوں کے ساتھ اپنی محبت اور پاکیزہ و اچھی سیرت و کردار سے کرتے رہے، اور انہوں نے سب کے لئے بھلائی اور خیرخواہی چاہی، اور اسلامی خوبیوں کو سمجھنے اور ان کی جانب آنے والے لوگوں کو مائل کرنے کی انتہک کوشش کرتے رہے، اور اسے اپنی محبت و خیرخواہی اور احسان والی مثالی زندگی سے ثابت کرتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی مفتوج قوم کی انسانی ہمدردی و خیرخواہی کے رویہ کے ساتھ حفاظت کرتے ہیں، اور اسلامی حکومت کی پوری تاریخ میں اسلام سے بیزار ہو رہے لوگوں نے اپنے دلوں میں مسلمان حکمرانوں کی جانب سے پائی جانے والی مخالفت کے باوجود اسلام قبول کیا، اور ملک کے عوام ان مخلص حضرات کی کوششوں سے ایک نئی دینی جماعت میں بدل گئے، جس کی وجہ سے حاکم و مکوم میں دوری ختم ہو جاتی ہے اور حکومت ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے نہ کوئی حاکم ہوتا ہے اور نہ کوئی مکوم۔

اس اہم طریقہ کار کی کمی کا مشاہدہ ہم اپسین کی تاریخ میں کرتے ہیں، جہاں مسلمانوں نے صدیوں تک حکومت کی، لیکن اس ملک کے عوام کو تبدیل نہ کر سکے، اور نہ انھیں کوئی ایسا فرد ہی ملا جو ایسا کرتا، اس طرح وہاں کے باشندوں کی اکثریت اسلام سے دور رہی، پھر جب دشمن کا فوجی محااذ طاقتور ہو گیا تو وہ اس ملک کو اس کی پہلی حالت یعنی مسیحی مذہب پر لے آئے، اور مسلمانوں کو ملک سے نکال دیا۔

بر صغیر کی صورت حال اندرس سے بڑی حد تک مختلف ہے، کیونکہ یہاں مسلمانوں کی حکومت کے آغاز ہی سے داعیوں اور مصلحین نے جو اسلامی لشکر کے ساتھ رہے یا اس کے بہت بعد آئے، ہندوستانی گمراہ مفتوج معاشروں میں سیاسی طور پر سرایت کرنا شروع کیا، اور انہوں نے اسلام کی رحیمانہ زندگی کی نمائندگی کر کے اس معاشرہ کو بدل ڈالا، چنانچہ انہوں نے رفتہ رفتہ فرزندانِ وطن کی بڑی تعداد کو حسن سلوک اور اسلامی سیرت و کردار کی اثر انگیزی سے اسلام کی جانب مائل کیا، یہی لوگ ہندوستان میں فرزندانِ اسلام کی کثرت کا سب سے بڑا اور اولین سبب تھے، حتیٰ کہ بر صغیر کے بعض علاقوں خالص اسلامی شہروں میں تبدیل ہو گئے، جیسے پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر اور بنگلہ دیش کے علاقوں، آج بھی مسلمان ان علاقوں میں بھاری اکثریت میں ہیں، جن کی تعداد تقریباً تیس کروڑ سے زائد ہے، اگر ہم ان لوگوں کے اسلام کا دقيقہ رہی اور بالغ نظری سے جائزہ لیں تو ہم ان کی تاریخ کو انھیں داعیوں اور علماء کی مختوق اور کاوشوں سے لبریز پائیں گے، نہ کہ باوشاہوں اور مسلمان حکمرانوں کی کوشش سے۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگی مقابلے یا سیاسی یورش یا حکومت کی اسلام میں کوئی قدر و قیمت اور اہمیت نہیں ہے لیکن وہ دلوں کی اصلاح اور خیر کو عام کرنے کے لئے اخلاقی کوششوں کے ذریعہ بطور سند ظہور میں آتے ہیں، اسی وجہ سے اسلامی جہاد کی کارگذاریوں میں اس کے علاوہ اور کسی بات کی گنجائش نہیں کہ پہلے پہل دشمنوں کو دین کی دعوت دی جائے، اگر وہ اسے قبول کر لیتے ہیں تو ان کے جان و مال حرام ہیں اور وہ لوگ اپنے ذاتی اختیار کی بقاء کے مستحق ہو جائیں گے اور جب اس کا انکار کریں تو ان سے اسلام اور مسلمانوں کی ذمہ داری میں داخل ہو جانے کا مطالبہ کیا جائے گا، اس طرح مسلمان داعیوں کے لئے ان میں بغیر کسی جروا کراہ

اور ظلم کے دعوت کا کام کرنے کا موقع مل جائے گا، لیکن جب وہ لوگ اس کا بھی انکار کر دیں تو پھر جہاد کا حکم ہے، اور ان سے جنگ کی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئیں، یا اس کے سامنے سرتسلیم خم کر دیں، یہی اسلامی طریقہ ہے۔

آج کی مسیحی دنیا اپنے مخدانہ مادی نظام حیات سے تنگ آچکی ہے، کیونکہ وہ نرم انسانی جذبہ سے خالی ہے اور مسیحی مذہب سے اس کا ربط ٹوٹ چکا ہے، اس لئے کہ اس میں اب کسی دینی خلا کو پر کرنے کی استعداد نہیں رہی لہذا وہ حیران و پریشان کسی نئے دین کی تلاش میں ہے جو اسے زندگی کی بھول بھیلوں سے نکال کر منزل کی صحیح رہنمائی کرے، اور اس کی استعداد اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔

لیکن آج ہمارے کچھ افراد اسلام کو غیروں کے سامنے بھلانی اور نیکی سے ہٹ کر خود غرضی اور نفرت کے طرز عمل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور جب تک ہم اسلام کا چہرہ نفرت اور معاندانہ طرز پر مغرب کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، ہم مغرب سے اس کا جواب اعراض اور روگروانی کے سوا کچھ نہیں پائیں گے، ایسے حالات میں یہ لازم ہے کہ ہم اسلام کو مغرب کے سامنے ایک ایسے حکیمانہ انداز میں پیش کریں جو اس کی موجودہ زندگی کو اجتماعی اور اخلاقی زوال سے چھڑا سکے، کیونکہ مغرب زدہ لوگوں کی طبیعت اس سے اکتا چکی ہے، اور وہ اس سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہے، چنانچہ وہ اپنے ان پیچیدہ مسائل کا حل تلاش کرنے میں حیران و پریشان ہے۔

لہذا ایسی صورت میں غیر مسلم کے سامنے اسلام کا روشن چہرہ ظاہرنہ کیا گیا تو پھر اسلام ان کے دلوں کو اپنی جانب لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور یہ دنیا اسی طرح در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرے گی، اور اسی چیزوں کا سہارا لے گی جس کو اپنے درد کا درماں سمجھ بیٹھے گی، اور اس کی سیکڑوں مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اس لئے مسلمان داعیوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلامی دعوت کے لئے مناسب و درست

طریقہ اختیار کریں کیونکہ دعوت کا کام انہی سے مربوط ہے خداۓ وحدہ لاشریک کا ارشاد گرامی ہے:

”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَتَنْهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَوْمِنُونَ بِاللَّهِ“

”تم ہی لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو، نیکی کی ہدایت کرتے ہو اور بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“

لیکن آج اسلام کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ مختلف ٹولیوں میں ہے ہوئے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو اسلام کے صرف نظریہ جنگ و جدال کو مانتے ہیں اس سلسلے میں صرف عملی اظہار پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ اسکو اسلام کی اولین اساس و بنیاد بنتاتے ہیں، وہ ایسا کرتے وقت رسول اکرم ﷺ کی سیرت و کردار اور طریقہ کار کو نہیں دیکھتے، وہ حضور اکرم ﷺ کے اس طرز عمل کو نہیں دیکھتے کہ آپ ﷺ نے بعض متأفین کے نفاق کو اچھی طرح جان لینے کے بعد بھی ان کو قتل کرنے سے احتراز کیا کہ وہ کفار کے مقابلے میں جانی دشمن ہیں اور آپ ﷺ نے خالص اسلام کی مصلحت میں یہ کیا کہ دشمنان اسلام کو کھلے طور پر یہ موقع ہاتھ نہ آجائے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی شخص کو قتل کر دیا، اسی وجہ سے آپ ﷺ اسلام کو بدنام ہونے سے بچاتے تھے، اور آپ ﷺ کے سامنے کوئی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا تو آپ ﷺ اس کا اعتبار کرتے، ایک صحابیؓ کو اس بات کی خلاف ورزی کرنے پر زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرمایا ”کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا ہے۔“

دوسرًا گروہ اسلام کو صرف عقلی نقطہ نظر سے پیش کرنے پر اکتفا کر رہا ہے، اور اسے مغربی نقطہ نظر سے ہم آہنگ بنانے پر اپنی محنت صرف کر رہا ہے، جبکہ مغرب خود اس طرز زندگی سے بیزار ہو رہا ہے، اس لئے کہ اب اس کو اس میں قلبی

راحت اور زندگی کا سکون میسر نہیں رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے افراد و قوافی فی اس زمانے سے منہ موز کر زندگی کے عام و سائل راحت کو بھی چھوڑ کر تارک الدنیا شخص کی زندگی اپنانے لگتے ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ مغرب نے خوب ترقی کی، وہ سیاسی اور اقتصادی نظام اور عسکری قوت وسائل معيشت اور تمدنی ارتقاء میں اوج ثریا تک پہنچ گیا ہے، اس کے ذریعہ اس نے انسانی مشکلات حل کرنے اور ذاتی رنج والم کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی ہر کوشش صد بصیرات ثابت ہوئی، آج مغربی نوجوان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کی تلاش میں ہر وادی کی خاک چھان رہا ہے، اور ہر جگہ سے ناکام اور نامراد لوٹ رہا ہے، یہ اخلاقی ابتری اور ذہنی کشمکش جس کا آج مغربی نوجوان شکار ہے یہ اس معاشرے کا نتیجہ ہے جو اخلاقی اور دینی پابندیوں سے یکسر خالی اور آزاد ہے، اور یہی ان کی بیماری کی اصل جڑ اور بنیاد ہے، ایسے میں مغرب کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے وہ یہ کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور خاص طور پر خاتم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی دعوت پر لیکر کہے، جن کی دعوت یہ ہے کہ خالق کائنات سے اور تعلق پیدا کیا جائے اور اعتدال و توازن کے ساتھ اسباب زندگی اختیار کئے جائیں، جن کا موقف یہ ہے کہ سامان راحت اور اسباب زندگی پر نٹوٹ پڑا جائے اور نہ رہبانیت ہی اختیار کر کے ضروریات زندگی سے منہ موز لیا جائے، ارشادِ خداوندی ہے:

”قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَنْخَرَجَ لِعِبَادِهِ وَالظَّيْنَتِ  
مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (سورہ اعراف: ۳۲)

”اے محمد! آپ کہہ دیجئے کس نے حرام کرایا اللہ کی زینت کو جو اس

نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں اور ستری چیزیں کھانے کی،  
آپ کہہ دیجئے، یعنیں اصل میں ایمان والوں کے واسطے دنیاوی  
زندگی میں اور خالص انہی کے لئے ہیں قیامت کے دن۔

دنیاوی زندگی کے تعلق سے صحیح رائے یہی ہے کہ اس کے بارے میں یہ  
مانا جائے کہ یہ ایک محدود و دا ختم ہونے والی زندگی اور دھوکہ کا سامان ہے، الہذا بھلائی  
اور خیر اسی میں ہے کہ اس کو اعتدال کے ساتھ لیا جائے اور دل کو اس طرح نہ باندھ  
دیا جائے کہ اس کا کھولنا مشکل ہو۔

آج مغرب اپنے موجودہ صنعتی اور سیاسی نظام کو چھوڑ کر نئے نظام کی  
خواہش نہیں رکھتا، اسی لئے کہ اس نے اعلیٰ قسم کے نظامہائے حیات کا تحریک کر لیا  
ہے، اور اس کا علم، تحقیق اور فرست انتہا کو پہنچ چکی ہے، الہذا وہ مزید کسی نئے نظام  
حیات کا خواہش مند نہیں، کیونکہ اسے اس میں اپنے مسائل کا حل نظر نہیں آتا، آج  
مغرب کے لوگوں کو قلبی چین و سکون کی تلاش ہے جس سے آج انسانی دنیا کا ماحول  
دیوالیہ ہو چکا ہے۔

الہذا حق کے داعیوں کے لئے ضروری ہے کہ اسباب زندگی اور سامان  
زندگی سے مستفید ہونے اور ان کی حیثیت کی تعین کے تعلق سے ان کی زندگی  
اعتدال اور جامعیت کا ایک قابلِ تقلید نمونہ ہو اور اس سلسلے میں علمی تشریع سے زیادہ  
عملی نمونے موثر ثابت ہو سکتے ہیں، اسی کے ساتھ علمی تشریع کی بھی ضرورت ہے،  
جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، تو کیا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے  
اصحاب کی سنت کے عین مطابق اپنی عملی زندگی کے قافلے کو از سر نو بڑھانے کا  
اقدام کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِ الْقَصْدِ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (۱)

(۱) ترجمہ از عربی: محمد فرمان نیپالی ندوی

## سیرت نبوی میں دعوت و سیاست کا امترانج

### اور اس میں ہمارے لئے رہنمائی

یہ ایک حقیقت ہے کہ سیاست و دعوت جنہیں ہم مسلمان ایک امر دینی ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی کے اہم ترین جزو خیال کرتے ہیں، دونوں اپنے اندر حالات کو بد لئے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن دونوں کے طریقہ کار جدا گانہ اور مختلف ہیں۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ داعیانِ اسلام مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے دعوت و سیاست کے اسباب و دواعی کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں اور ان کے نشیب و فراز پر گہری نظر رکھیں۔

یہ ہماری سخت غلطی ہو گی اگر ہم معاملہ کی تقییش، زمانے کے تغیرات اور دعوت و سیاست کے پہلوؤں پر غائزہ نظر رکھنے کے بجائے صرف خواہشات اور آرزوں کے ریگزاروں میں بھٹکتے رہیں اور حالات کے نشیب و فراز سے قطع نظر ان خواہشات کو بروئے کار لانے کے لئے (Shortcut) راستے کی تلاش میں کوشش و سہل ترین راستے کی جستجو میں سرگردیں رہیں۔

راستہ کتنا ہی طویل ہوا اور حالات کتنے ہی نازک ہوں، لیکن دعوت کے طریقہ کار کو جہدی مسلسل عمل پیغم، حکمت عملی اور حسن اخلاق کے خطوط ہی پر منظم کرنا

ہوگا، لیکن جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ بدلتے ہوئے حالات پر گھری نظر رکھی جائے، ایسی اسکیم بنائی جائے جو دقت نظر اور سلامت فکر کی حامل ہو اور جو حالات کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہی اپنے طریقہ کار کو اپنانے کی صلاحیت رکھتی ہو، آپ معرکہ جنگ میں دیکھتے ہیں کہ ”الحرب خدعة“ کے پیش نظر دیگر چیزوں کے مقابلہ میں دشمنوں کی اسکیم اور پلان پر گھری نظر رکھنی ہوتی ہے، اسی بنا پر ذکاوت و ذہانت اور فہم و فراست کی گہرائی سیاست کا اہم ترین عنصر سمجھا جاتا ہے اور بتقاضاۓ حال کبھی سیاست شعلہ کی شدت اختیار کر لیتی ہے، تو کبھی شبہم کی سی خندک سے دشمنوں کے دل جنتے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی شمشیر و سنان کے زور پر دشمنوں کو جھکنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو کبھی صرف دفاع میں بہتری سمجھی جاتی ہے، اگر بعض وقت رحمت خداوندی شامل حال نہ ہو تو انسان اپنی فطری کمزوری کی بنا پر مادیات کے تیز دھارے میں بہہ جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سیاست میں نفسانی رجحانات اور مادی اغراض سے بچنے کے لئے فکری بیداری اور ذاتی تحفظ بہت ضروری ہے۔

اب اگر گذشتہ ادوار میں دینی کوششیں سیاست سے الگ ہو کر صرف دعوت و صبر کے طریقہ کار تک محدود رہی ہیں تو شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ سیاست کے میدان میں کبھی کبھی انسان ذاتی مصالح اور مادی اغراض کے خاروں سے الجھ جاتا ہے، چونکہ دعوت و تبلیغ کی تنظیم، جہد مسلسل، صبر پیغمب، قوت برداشت اور دعا و اخلاص کے خطوط پر ہوتی ہے لہذا نوید قرآنی :

”إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ  
لَهُمُ الْجَنَّةَ“

”بلاشہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے

مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔“

اسی طرح:-

إِنْ تَكُونُوا تَأْمُلُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْمُلُونَ كَمَا تَأَمَلُونَ  
وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ

”اگر تم الم رسیدہ ہو تو وہ بھی الم رسیدہ ہیں جیسے تم الم رسیدہ ہو اور  
تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہو کہ وہ  
لوگ امید نہیں رکھتے۔“

کے پیش نظر اگر منزل مقصود تک رسائی ہوتی ہے تو فبہا ورنہ اجر و ثواب کی عطر بیزی  
سے استفادہ تو یقینی ہے۔

یہی وہ موڑ ہے جہاں دعوت و سیاست کا حسین امترانج نظر آتا ہے اور یہ  
اسلام کا اعجاز ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی بار اسلام نے دعوت و سیاست کو میدان  
عمل کے گلدان میں سجا کر دنیا والوں کے سامنے ایک حسین گلدستہ پیش کیا ہے، یہ  
حقیقت ہے کہ سیاست و دعوت کا امترانج تاریخ انسانی میں پہلی بار ہوا جو ایک طرح  
سے نہایت دشوار ہے، کیونکہ سیاست کی بنیاد صرف حصول منفعت پر ہے اور دعوت  
کی بنیاد حصول منفعت سے قطع نظر صرف اخلاص پر ہے، اسی وجہ سے اسلام میں  
سیاست و دعوت کو جدا نہیں کیا گیا، تاریخ بتاتی ہے کہ کئی مرتبہ دانشوران سیاست و  
رہبران دعوت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں۔

رہبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ منافقین جو جاں شاران  
اسلام اور فدا کار ان دین کے مال میں حصہ بٹاتے ہیں وہ اسلامی معاشرے کے  
تناور درخت کی جڑوں کو کھو کھلی اور اسلام کے قلعہ کو زمین بوس کرنے کی ناپاک  
کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے اصولاً کوئی انتقامی کارروائی

نہیں فرمائی، آخر کیوں؟ اس لئے کہ وہ لوگ آپ ﷺ کے اعزہ میں تھے یا آپ ﷺ  
کے احباب تھے؟ نہیں بلکہ دعوتِ اسلامی کا اس وقت بھی تقاضا تھا کہ آپ ﷺ اس  
وقت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ فرماتے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  
نے حدیبیہ میں صلح فرمائی جب کہ سیاست کا تقاضا تو یہ تھا کہ مسلمان اپنے مقصد  
کی تکمیل کے لئے بڑھے چلے جاتے چنانچہ اس وقت صحابہ کرام کو اقدام سے روکنے  
پر ان کے روحانی جذبات کو ختم ترین دھکا لگا، لیکن چونکہ اسلام میں سیاسی مصالح،  
دعویٰ مصلحت کے دست نگر ہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی  
ڈھارس بندھائی اور انہیں قبول صلح پر آمادہ کر لیا، یہیں پر یہ حقیقت سوالیہ نشان بن کر  
سامنے آتی ہے کہ جب سیاست و دعوت کے مابین اتحاد ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ  
دونوں کے مصالح میں بھی ہم آہنگی پیدا نہ کی جائے۔

آج اس کی سخت ضرورت ہے کہ مسلمانانِ عالم اسلامی مشن کے لئے ہمہ گیر  
اور مکمل طور پر اس طریقہ کو اختیار کریں، جس طرح کہ آج سے پہلے نبی کریم ﷺ،  
واعیانِ اسلام اور مجاہدین عظام نے اپنایا تھا، وہ سیاست و دعوت دونوں اصول کے  
جامع تھے، وہ حقیقت دعوت و سیاست کے اصول کا نظام ایسا جامع ہے کہ اگر اسلامی  
معاشرے کی تنظیم اسی خطوط پر کی جائے تو یہ کہنا قطعاً غلط نہ ہوگا کہ سیاست عین دین  
ہے، کیوں کہ معاشرے کے لئے اس میں ایسی ہم آہنگی ہے کہ جس کی ظاہری ہماری میں  
بھی جیت کا پہلو نمایاں ہے، اس لئے کہ ہر عملِ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے  
ایشارہ و اخلاص ہی پرمی ہوتا ہے۔

لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانانِ عالم اسوہ رسول ﷺ کو چھوڑ  
کر اپنی تمام تر کوششوں کی تنظیمِ مغرب کے اصول کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہیں حالانکہ  
وہ خوب جانتے ہیں کہ مغرب کے ناقص اصول نے مذهب کو سیاست سے الگ

نکال پھینکا ہے، ان کے نزدیک تو مکرو فریب، غداری و دھوکہ دہی، بہانے بازگی و حیلہ سازی اور کمائی کے ذرائع تک ہر ممکن کوشش سے پہنچنے اور حالات کے مطابق منصوبہ بد لئے کا نام سیاست ہے، انہیں اس سے مطلب نہیں کہ بھلانی اور خیران سے کسوں دور ہو جائے، ان کی مثال بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ ایک شخص اکتساب مال کرنا چاہتا ہے اگر وہ معروف طریقہ سے اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ورنہ وہ چوری، رشوٹ، لوٹ مار اور ڈاکہ زندگی کے ذریعہ مال و دولت جمع کرتا ہے۔

یہی یورپ کی سیاست ہے جسے ہمارے ملک اور ہمارے عوام نے ایک قیمتی تھفہ سمجھ کر قبول کیا ہے لیکن یہ مسئلہ اس وقت بہت ہی بھیانک روپ اختیار کر لے گا جب کہ یہ ہماری دینی اور دعویٰ کوشش میں دخل انداز ہو گا۔<sup>۱</sup>

## عہد حاضر میں تعلیمات نبویؐ کی ضرورت

پنجمبر اسلام کی تعلیم اور پیغام جس نے آج سے چودہ سو سال قبل انسانی تاریخ میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا آج کی متمن دنیا کے لیے بھی روشنی کا بڑا اینار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ان مسائل اور تقاضوں کے لیے جن سے آج کے انسان کو سامنا ہے ایسی ہدایت عطا فرمائی ہے جن پر عمل کرنے سے اعتدال اور حسن و خوبی کے ساتھ ابھننوں کو دور اور پیچیدگیوں کو بآسانی حل کیا جاسکتا ہے، آپ ﷺ نے موجودہ زندگی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایسے اصول عطا فرمائے ہیں جن کی روشنی میں زندگی کا قافلہ اپنی پیچیدہ راہ کو بآسانی طے کر سکتا ہے جو مساوات، باہمی ہمدردی، نیک نفسی، علم و دستی اور انسانی کمالات و صلاحیتوں سے صحیح استفادہ کی صفات سے مزین ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت انسانی، مساوات و تعاون اور ہمدردی کے سبق دیئے ہوئے چھوٹے کافر قومیا، کمزور طبقات اور عورت کو طاقت اور عزت کا مقام عطا کیا، آپ ﷺ اپنی زندگی کے آخری محاذات تک اس کی تاکید فرماتے رہے، آپ ﷺ نے اپنی وفات سے قبل نصیحت کے جو آخری الفاظ فرمائے ان میں ایک طرف نماز کی پابندی کی تاکید فرمائی جو حق خدا ہے اور دوسری طرف انسانی

ملکیت میں آنے والے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی جو کہ انسانی اخوت کا عظیم حق ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: الصلوٰۃ و ما ملکت ایمانکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنتۃ الوداع کے موقع پر جبکہ آپ پر ایمان لانے والوں کا سب سے بڑا اجتماع تھا، یہ فرمایا کہ دیکھو شاید اب میں تم سے مل سکوں اس لیے خود بھی سنوار دوسروں تک پہنچاؤ۔

ہدایات کے اہم نقاط یہ تھے کہ دیکھو تم سب ایک آدم کی نسل سے ہو، خواہ کوئی عرب ہو یا غیر عرب، اگر کوئی کسی سے افضل و برتر ہو گا تو صرف احتیاط و خوف خدا کی بنیاد پر ہو گا، اور دیکھو تم میں سے کسی کا کسی کی جان اور اس کے مال و متاع پر قبضہ کرنا یا ضائع کرنا اس طرح منوع اور حرام ہے جس طرح ذی الحجہ کے مقدس مہینہ اور عرفہ کے مقدس دن اور مکہ کے مقدس شہر کی حرمت و تقدس کو نقصان پہنچانا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عزت و حرمت کو مذہبی عزت و حرمت کا درجہ دے کر اخوت و مساوات انسانی کا وہ عظیم اعلان فرمایا جس کی مثال ماقبل کی تاریخ میں نہیں ملتی، آپ ﷺ شاید اپنی باطنی نگاہوں سے مستقبل کی دنیا اور اس کی ضرورتوں کو دیکھ رہے تھے، لہذا آپ ﷺ انسان کو آئندہ کے پیش آمدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے رہنمائی دے رہے تھے، آپ کا لے گورے کی تقسیم ختم کر رہے تھے، انسان کے خود ساختہ چھوٹے بڑے کے پیمانوں کو توڑ رہے تھے، آپ ﷺ نے امتیاز کی دیواروں کو گرا رہے تھے، آپ ﷺ عربوں کے مجع میں کھڑے ہو کر یہ عظیم، بے غرضانہ اور منصفانہ اعلان کر رہے تھے کہ عرب کو غیر عرب پر کوئی تفوق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس میں خدا کا ڈر زیادہ ہو، ایک انسان پر دوسرے انسان کی جان و مال ویسی ہی قابل احترام و لحاظ ہے جیسی مذہبی تقدس کو رکھنے والی کوئی چیز۔

آپ ﷺ نے انسان کو انسان پر حکومت کرنے کا حق صرف اس کی خدا ترس صلاحیت کی بنا پر دیا اور رنگ و نسلی علاقائی تفوق کے پیانوں کو توڑا، آپ ﷺ نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو خواہ وہ حیثیت کے لحاظ سے غلام اور رنگ کے لحاظ سے کالا ہو، یہ وہ اعلان تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نے دیا ہوتا، اور عربوں کے دل اسلامی طاقت کے سامنے جھک نہ گئے ہوتے تو کہنے والے کی گردان اس کے پہلے لفظ پر اڑادی جاتی، یہ حقوق انسانی کا پہلا اعلان تھا جو آج کی دنیا میں اور قیامت تک آنے والی قوموں اور نسلوں کے لیے روشنی کا مینار رہے گا، یہ صرف ایک اعلان ہی نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت پر ایک احسان تھا، اس کی وجہ سے آپ ﷺ کے ماننے والوں میں مساوات کی غیر معمولی روح پیدا ہوئی اور ان کی حکومتوں کی تاریخ میں ایسے وقایتے بار بار آئے آزاد قوموں پر غلام نسل کے لوگوں نے بھی حکومت کی اور ان کی اطاعت سے کسی نے اس بنیاد پر انکار نہیں کیا کہ وہ کم حیثیت کی نسل کے لوگ ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عہد حاضر کے لیے جہاں مساوات انسانی کا یہ عظیم سبق ملتا ہے وہاں مذہب اور زندگی میں مساوات وہم آہنگی کا پیغام بھی ملتا ہے، اور یہ پیغام بھی کہ وہ تاریخی اور عظیم پیغام ہے جس کی مثال ماقبل کی تاریخ میں نہیں ملتی۔

مذہب کے سلسلے میں دنیا میں ہمیشہ یہ تصور رہا ہے کہ وہ صرف عبادت اور دنیا سے بے تعلقی پر مبنی ہے چنانچہ مذہبیت میں ترقی کے خواہش مند کے لیے یہ ضروری سمجھا جاتا رہا ہے کہ وہ دنیا سے حاصل ہونے والی راحت و لطف کی چیزوں سے زیادہ سے زیادہ بے تعلقی اختیار کرے لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر یہ پیغام دیا کہ دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ﷺ نے خدا کا یہ

کلام سنایا:

قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالظَّيْنَى مِنَ الرِّزْقِ۔ (سورة اعراف: ۳۲)

جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے یہ جو اچھی چیزیں اور رزق کا سلامان اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے، اس کو کون حرام کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت سنائی ”رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قَنَا عَذَابَ النَّارِ“ جس میں خدا سے آخرت میں بھلائی اور خوبی مانگنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھلائی اور خوبی بھی مانگی گئی ہے اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رہبر انسانیت ہیں جنہوں نے دین کے ساتھ دنیا کو اپنا نے اور اختیار کرنے کی دعوت دی، آپ نے دین و دنیا کو اس طرح ملایا کہ نہ تو دنیا کو یہ شکایت کہ اس کی حق تلفی ہوتی ہے اور نہ دین کو نقصان کہ دنیا اس کو کم کرنے کا باعث بن رہی ہے۔

آپ ﷺ نے انسان کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا وہ انسان کی فطری اور ضروری تقاضوں کی نہ صرف پوری رعایت دیتا ہے بلکہ اس کو شرعی اور مذہبی حیثیت عطا کرتا ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری ذات کا تم پر حق ہے تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، آپ ﷺ نے انسان کا اپنی ذات کے جائز تقاضوں کو پورا کرنا، اپنے جسم کے جائز تقاضوں کو پورا کرنا، اپنے گھروالی اور گھروالوں کے جائز تقاضوں کو پورا کرنا مذہب کا جزء قرار دیا اور وہ عمل جن کو انسان خالص دنیا داری کا عمل سمجھا کرتا تھا اور ان میں سے بعض بعض کو بالکل مذہب کے خلاف سمجھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ان میں سے متعدد مذہب کے عمل قرار پائے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر اس روشنی میں مطالعہ کیا جائے تو

نظر آئے گا کہ اس میں وہ تمام ضروری چیزیں ہیں جن سے دین و دنیا کی جامعیت کا پورا ثبوت ملتا ہے، آپ ﷺ کی تعلیمات کی رو سے مذہب زندگی کی مجبوریوں اور ضروری تقاضوں کی صرف رعایت ہی نہیں کرتا بلکہ ان کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، وہ زندگی سے صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے غیر ضروری تقاضوں اور رجحانات کو مذہب کی ہدایات کا پاند بنا دے، وہ دولت پیدا کرنے کو منع نہیں کرتا صرف اس کے بڑھانے کی ہوس پر وک لگاتا ہے، وہ نفس کے جائز تقاضوں کو پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن اس کے حدود بتاتا ہے، گھر یا زندگی اور آپس کے معاملات میں ضابطہ اخلاق متعین کرتا ہے، غرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت بلکہ پوری دنیا پر احسان کیا، اس کو ظالمانہ اور محدود طریقہ زندگی سے نجات دلائی جس میں وہ پڑگئی تھی کہ ایک طرف وہ اہل دنیا کی لذتوں اور غمتوں سے انداھا دھندا فائدہ اٹھانے اور لطف اندازو زہونے میں مست تھے اور وہ دوسری طرف اہل دین تھے جو دنیا کے معمولی بلکہ ضروری منافع سے بھی فائدہ اٹھانا صحیح نہیں سمجھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ ﷺ نے انسان کو مذہب اور دنیاوی زندگی کا ایک مشترک اور جامع نظام عطا کیا جس میں مذہب اور زندگی کے درمیان کوئی تضاد نہ تھا، بلکہ وہ دونوں نہایت خوبی کے ساتھ باہم ایک وحدت بن گئے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو احسانات کہ آپ ﷺ نے انسان انسان کے فرق کو دور کیا اور مذہب اور زندگی کے مابین دوری اور اختلاف کو ختم کیا وہ بڑے احسانات ہیں جن کے ذریعہ انسانیت کو تاریخ کی ظالمانہ اقدار سے نجات ملی، اس کے لیے انسانیت پیغمبر اسلام کی جتنی زیادہ ممنون ہو کم ہے۔

صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ واصحابہ اجمعین۔

## معاشرہ کی اصلاح میں

### حدیث و سنت نبوی سے رہنمائی

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، جن پر آخری صحیفہ آسمانی نازل ہوا۔ اور جن پر آسمانی احکام اور انسانی زندگی کو سنوارنے والی تعلیمات کو مکمل کیا گیا۔ اور قیامت تک کے لئے اسی کو مکمل شریعت قرار دیا گیا۔ آپ ﷺ پر نازل کیا جانے والا آخری صحیفہ قرآن مجید اور اس کے ساتھ آپ ﷺ کا کلام اور آپ کا عمل جس کو سنت نبوی کہتے ہیں اسلامی شریعت اور دین کا مرجع و منبع ہیں، انہی دونوں سے دین و شریعت کے سارے احکام لئے جاتے ہیں، اور ان کا مانا مسلمان رہنے کے لئے لازم اور ضروری ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اہل ایمان تھے انھوں نے آپ ﷺ کو ایمان کے ساتھ دیکھا اور سمجھا ہے ان کے قول و عمل کو بھی حدیث شریف کے تحت رکھا گیا۔ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو اور نمونہ تھے۔

اور حدیث شریف اصول اعام اصطلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک ہے جس میں آپ ﷺ نے حکم دیا اور وہ کلام ہے جس میں خود آپ ﷺ کے عمل کا ذکر آیا، یا اپنے صحابی کے عمل کو آپ ﷺ نے دیکھا اور منع نہیں فرمایا۔ اس

طرح یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ ﷺ نے کس طرح زندگی گزاری اور آپ ﷺ نے کس طرح معاملہ کیا، اور آپ ﷺ نے کیا طرز اپنایا اور کیا رویہ اختیار فرمایا۔

اس طرح حدیث کی تین قسمیں بتائی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا عمل، اور کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھنا اور منع نہ کرنا، اس طرح کی حدیث کے لئے تقریر کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو ہوتے ہوئے دیکھا اس پر نکیر نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اچھی تھی، جائز تھی اس لئے اس پر نکیر نہیں فرمائی۔ کسی کام کو ہوتا دیکھا اور اس پر نکیر نہیں فرمائی تو یہ بھی حدیث میں داخل ہے، چنانچہ اس طرح کی حدیث شریف مسلمانوں کے لئے دستور حیات ہے۔

زندگی کا ہر معاملہ، زندگی کا ہر جزء حدیث سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ اور یہی ہر ایک مسلمان کے لئے معیار ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام گو جو زندگی میں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور برآ راست استفادہ سے جو نورانیت حاصل ہوئی وہ کسی اور کو حاصل نہیں، اس پر اتفاق ہے کہ انہیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بہتر جماعت روئے زمین پر کوئی نہیں، کوئی خواہ کتنا ہی نیک ہو، صحابیؓ کے برابر نہیں پہنچ سکتا اس لئے صحابہ کرام کو جو حیثیت حاصل ہوئی وہ کسی اور کو نہیں حاصل ہو سکتی۔ انہوں نے برآ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ برآ راست آسمان سے نورانیت پہنچتی تھی ان کی طرح تو ان کا کوئی صحابی بھی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ آپ ﷺ کا برآ راست آسمان سے تعلق تھا وہی آتی تھی، صحابہ کرامؓ کا آسمان سے تعلق برآ راست نہ تھا لیکن اس شخصیت سے تعلق تھا جس کے پاس آسمان سے برابرا حکام آتے تھے اور رہنمائی ہوتی تھی اس طرح سارے انسانوں میں سب سے

بڑے اور افضل صحابہ کرام ہیں اور ان سے بہتر اور افضل سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو حضور ﷺ کے قول و فعل و تقریر کے ساتھ صحابہؓ کے قول و فعل اور تقریر کو بھی نمونہ مانا ایسا ہی ہے جیسے ایک ہی بات کو مانا چنانچہ مسلمان کے لئے قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کسی مسئلہ کے سلسلہ میں حکم نہ ہونے پر یہ بات کہ کسی صحابیؓ نے اس کے بارے میں یہ کہا یا یہ کیا بھی دین بن جاتا ہے جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے کہ آپ ﷺ نے ایسا کیا اور ایسا کہا یہ تو دین ہے ہی، اس کو تو ایک معمولی آدمی سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ دین ہے، لیکن جاننے کی یہ بات بھی ہے کہ صحابہؓ نے بھی جو فرمایا وہ بھی دین ہے اس لئے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور حضور ﷺ سے انہوں نے استفادہ کیا تھا۔ اور صحابہ کا ایمان و یقین اس درجہ کو پہنچ چکا تھا کہ وہ غلط بات کہہ ہی نہیں سکتے تھے، جو کچھ دیکھا اسی کو مانتے بھی تھے، اس لئے حضور ﷺ سے تعلق پیدا ہو جانے کے بعد چاہے ایک لمحہ کا ہوا ایمان کے ساتھ اگر کسی نے حضور ﷺ کو دیکھایا حضور ﷺ سے سنا تو وہ صحابی ہو گیا، صحابی ہونے کے بعد اس کا درجہ وہی ہو گیا جو صحابہ کرام کا درجہ ہے دین کے سلسلہ میں اس کی بات بھی دین بن جاتی ہے کیونکہ وہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس لئے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اخذ کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى“ کہ آپ اپنے دل سے اور اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں وہ وجی ہوتی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ وحی کے ذریعہ آیا، وحی کا طریقہ کہ بعض وقت پوری پوری سورتیں اور آیتیں آتی تھیں اور بعض وقت دل میں بات

ڈال دی جاتی اور بعض وقت خواب میں دکھادیا جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول تھے اور نبیوں کے خواب اللہ تعالیٰ نے سچے رکھے تھے وہ غلط خواب نہیں دیکھ سکتے تھے جو دیکھتے تھے اس کی حیثیت آسمانی حکم وہدایت کی ہوتی تھی، اس طرح آپ ﷺ کو حق بات پہنچائی جاتی تھی، کلام کی صورت میں اس کی دو شکلیں تھیں ایک تو وہ جو قرآن میں داخل کردی گئی، وہ وحی متلو ہے یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وہ جو قرآن میں داخل نہیں کی گئی، وہ وحی غیر متلو ہے، وحی مختلف طریقے سے آتی تھی، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں اوپر سے بتائی ہوتی اور دی ہوتی ہوتی تھیں، آپ ﷺ دین کے تعلق سے کوئی بات اپنے دل سے نہ کہتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے جو وحی میں ان کو بتلائی جاتی ”إِنَّهُ مُوَلَّاً لِّلَّهِ وَلَا يُوْحَى“ اسی لئے آپ ﷺ کا جو کچھ کہا ہوا ہے وہ خالص اللہ کا کہا ہوا ہے آپ ﷺ نے جو کچھ کہا وہ گویا اللہ نے کہا، اسی طرح صحابی نے جو کچھ کہا وہی کہا جو اللہ کے رسول نے کہا، ان کو اللہ پر ایمان و یقین تھا دین کے سلسلہ میں کوئی بات دل سے نہ کہتے تھے۔ وہ جو بھی کہتے اللہ کے رسول ﷺ سے سن کر یاد کیجھ کر کہتے تھے۔ مثلاً دیکھا کہ فلاں بات ہو رہی تھی جس کو اللہ کے رسول ﷺ نے دیکھ کر روکا نہیں تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے غلط نہیں سمجھا اس لئے نہیں روکا تو وہ کہیں گے کہ فلاں چیز جائز ہے، تو صحابہ کرام نے جو کچھ کہا اور کیا وہ اللہ کے رسول ﷺ نے کہا اور کیا، اور اللہ کے رسول ﷺ نے جو کچھ کہا وہ گویا اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بات ڈالی گئی یا ان کو پہنچائی گئی۔

اللہ کے رسول ﷺ کا طرز عمل اور طرز زندگی یہ دونوں دین ہے، اور صحابہ کرام کا بھی طرز عمل اور طرز زندگی دین ہے، اور حدیث شریف اسی کا جمکون ہے۔

حدیث شریف ایسی چیز ہے کہ ہمارا پورا دین اسی سے ماخوذ ہے، اور اسی سے مختلف علوم نکلے ہیں، اسی سے فقہ نکلی ہے، فقہ کیا ہے؟ مسئلے مسائل عبادات اور

اوامر ہیں، نماز میں قیام کیسے ہونا چاہئے رکوع کیسا ہونا چاہئے کیا پڑھنا چاہئے اور کس طرح پڑھنے کی ضرورت ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نماز روزہ، زکوہ، حج وغیرہ کے مسائل فقہ میں ملیں گے۔

اور وہ اعمال جن کا طرز عمل طریقہ کار فقه نہیں بتاتی وہ عام اخلاقی ہیں، عام عبادات ہیں، اور طور و طریق ہیں اور یہ سب بھی حدیث میں ملتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وعظ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات کی مذمت فرمائی فلاں کام کو اچھا اور نیک کام بتایا، یہ سب باتیں عام اخلاق میں آتی ہیں۔

اس حدیث کو دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا موثر وعظ فرمایا کہ سب کی آنکھیں بہنے لگیں اور سب لرزائیں روایت میں آتا ہے کہ: ”وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون“ وجل اس خوف کو کہتے ہیں جدول میں لرزہ پیدا کر دے، خوف کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، عربی میں اس کے مختلف الفاظ ہیں، خوف کا لفظ آتا ہے، خدر اور ذعر کا بھی لفظ آتا ہے، وجل اور خشیت کا بھی لفظ آتا ہے، ان سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے اور ان کے موقع استعمال بھی الگ الگ ہیں کہ کس کیفیت میں کون سا لفظ زیادہ بہتر ہے، عام خوف کو خوف کہتے ہیں، لیکن جب کسی چیز کو دیکھ کر اچانک خوف آجائے اس کو ذعر کہتے ہیں، خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جدول میں احترام کے جذبے کے ساتھ ہو، وجل اس خوف کو کہتے ہیں کہ جس میں آدمی لرز جائے تو صحابہ کرام کا ایمان اتنا بڑھا ہوا تھا کہ جب آپ سے جنت کی یا جہنم کی بات سنتے تھے تو لرز جاتے تھے، ان کا ایمان اتنا قوی تھا کہ جنت کا ذکر ہوتا تھا تو گویا جنت ان کو نظر آ رہی ہے، اور اگر دوزخ کا ذکر ہوتا تو گویا دوزخ نظر آ رہی ہے، آگ لپکتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ آگ ہماری طرف

بڑھ رہی ہے اور کہیں ہمیں چھونہ لے یہ کیفیت صحابہ کرام کی ہوتی تھی اس کیفیت کے بعد کیا دل ان کا لرز نہیں جائے گا؟ آپ سور ہے ہوں اور آگ لگ گئی اور اچانک آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کی طرف بڑھ رہی ہے اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو آپ کا دل لرز جائے گا معلوم ہوا کہ موت سامنے ہے، یہ کیفیت صحابہؓ کی ہو جاتی تھی اس لئے کہ ان کا ایمان اتنا بڑھا ہوا تھا کہ جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں اور اس کو علمی طور پر مان لیتے ہیں دل کی گہرائیوں میں نہیں اترتا، لیکن ان کو اس پر اتنا یقین ہوتا تھا کہ جیسے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ موثر تھی، سننے والے آپ ﷺ کے صحابی تھے ایسے ایمان والے تھے کہ سن کر بے حد متأثر ہوئے اور ڈر گئے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ نے ایسا وعظ فرمایا جیسے کہ آپ آخری وعظ فرمار ہے ہوں، اور اتمام جحت کر رہے ہوں اور جس کے بعد کچھ کہنا نہیں کہ یہ آخری بات ہے جو کہہ رہے ہیں آپ ﷺ کچھ نصیحت کیجئے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”او صبیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وان تامر عليکم عبد“ (میں تم کو نصیحت کرتا ہوں ہدایت دیتا ہوں کہ دل میں خدا کا ذر پیدا کرو اور بات سن اکرو اور مانا کرو جس طرح وہ شخص کرتا ہے جو کسی با اختیار آقا کا غلام ہو، یہ ایسی حدیث ہے کہ خاص طور پر اس زمانہ کے لئے اس میں بہت ہی روشنی ہے، یہ زمانہ ایسا ہے کہ خود غرضی اور آپس میں تعلقات کی خرابی، اور ایک دوسرے سے کشکش اور لڑائی، اور ایک دوسرے کی مخالفت مسلمانوں میں نہایت عام ہو گئی ہے۔ لیڈر لیڈر سے لڑ رہے ہیں، واعظ و علماء تک آپس میں لڑ رہے ہیں، حضور ﷺ نے جو فرمایا ہے وہ اسی لئے فرمایا کہ آپ ﷺ کو اللہ کی طرف سے یہ بتلا دیا گیا تھا کہ اس امت پر ایسے دور آئیں گے، اور یہ بات اسی زمانہ میں نہیں بلکہ اس سے پہلے سے ہوتی رہی ہے،

تو حضور ﷺ کو اللہ کی طرف سے یہ بات بتلا دی گئی تھی کہ امت ان حالات سے گذرے گی اس لئے آپ ﷺ نے اس سے خبردار کیا کہ دیکھوایے حالات پیش آسکتے ہیں اس میں تم کو کیا کرنا چاہئے۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور جو شخص خدا سے ڈرے گا جس کو واقعی ڈرنا کہتے ہیں جیسا کہ صحابہ کرام ڈرتے تھے، تو وہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں ڈرے گا، مثال کے طور پر آگ سے آپ ڈر رہے ہیں خدا نخواستہ آگ لگ گئی آپ آگ کے سامنے کھڑے ہیں اس وقت وہاں آپ کا مخالف بھی پہنچ گیا ہے تو کیا ایسے موقع پر آپ اپنے مخالف سے دشمنی کریں گے؟ نہیں کریں گے بلکہ دونوں مل کر پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور اس وقت دونوں متفق ہو جائیں گے، دونوں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے کہ بھائی آگ لگ رہی ہے اس کو بجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ہم اپنے اختلاف نہیں دیکھیں گے، اس وقت ہم دونوں مل جائیں گے، صحیح مومن اللہ کے غضب و ناراضی سے اسی طرح ڈرتا ہے اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، اس کی پکڑ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے اس طرح ڈرنے کا سبب یہ بنتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن ہم تمہارا حساب لیں گے اور تمہارے اعمال کے مطابق جزا و سزا دیں گے اگر برے اعمال ہیں تو جہنم اور اگر اچھے اعمال ہیں تو جنت دیں گے، اس میں پورا پورا معاملہ ہو گا وہاں رعایت نہیں، ہاں اگر بعد میں اللہ رحم فرمادے تو اس کا فضل ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، توجہ ہم کو اس پر واقعیٰ یقین ہو گا اور خدا سے واقعیٰ ڈر ہو گا تو ہمیں بے حد فکر اس کی ہو گی کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، جب اللہ کی رضا مندی یا ناراضگی کی فکر ہو گی تو یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی کہ فلاں نے ایسا کر دیا فلاں نے ایسا کہا، مومن سوچتا ہے کہ فلاں نے ایسا ویسا اگر کر دیا تو کتنا نقصان کیا، اس سے زیادہ نقصان تو اس میں ہے کہ آدمی

اپنے عمل کے نتیجے میں جہنم میں پہنچ جائے ہماری دنیا کتنی ہے اور کیا اہمیت رکھتی ہے وہ اگر بر باد ہو جائے تو کتنا نقصان ہے، اللہ سے ڈرنے والا یہ دیکھتا ہے ہر دنیا بر باد ہو جائے لیکن ہماری آخرت سنور جائے جہاں عبدالآباد کی زندگی گذارنی ہے، صحابہ کرامؓ کے دل کی کیفیت یہی بن گئی تھی جب ان کو جہنم سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ واقعی ڈرتے تھے اور خوف زدہ ہو جاتے تھے اور آنسو جاری ہو جاتے تھے اور ان باتوں میں پڑنے یا کرنے سے دور بھاگتے تھے جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نار ارض ہوتا ہے، قرآن مجید میں تلقین آئی ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے فرمایا: "اتقوا اللہ حق تفتہ" اور ایسا ڈرواقعی پیدا ہوتا ہے تو بس آپس کے اختلافات، لڑائیاں، شکایات اور یہ کہ ان کو زیادہ اور ہم کو کم دیا گیا، ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا، خود غرضی کی گئی، یہ سب ماند اور کمزور پڑ جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کے بعد فرمایا کہ امیر کی بات سنو اور مانو اور جب مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو خوب مانتا ہو گا تو یہ حکم بھی مانے گا اور سب لوگ امیر کی باتیں ماننے لگیں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا اور غلط کام بھی ختم ہو جائے گا، فرمایا "انه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً" کہ بعد میں جوز ندہ رہیں گے جب کہ ایمان کی کمزوری آجائے پر اختلافات اثر انداز ہونے لگیں گے تو وہ لوگ بڑا اختلاف دیکھیں گے، ایک دوسرے سے مخالفت اور نفرت رکھنے والے لوگ ہونے لگیں گے ایسے وقت میں میں تم کو وصیت کرتا ہوں "عليکم بستی و سنة الخلفاء الراشدين المهدیین" کہ میرا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریقہ اختیار کرو اور اس پر نظر رکھو کہ میں نے کیا کیا اور ایسے موقع پر صحابہؓ نے کیا کیا۔ خاص طور پر خلفاء راشدین کو دیکھو۔

سنۃ کے معنی طریقہ عمل کے ہیں اور "السنۃ" سے مراد سنۃ رسول ﷺ

ہے اور سنت کی اضافت جس کی طرف کی جائے اس کی سنت اور اس کا طریقہ ہو جاتا ہے، تو آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ میری سنت پر عمل اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو یعنی میرے طریقہ کو دیکھو اور اس کو اختیار کرو اور صحابہؓ کے طریقہ کو دیکھو اور اس کو اختیار کرو، اگر میرے طریقہ پر عمل کرو گے اور خلفائے راشدین کے طریقہ کو سامنے رکھو گے تو آپسی اختلافات اور کشمکش مصیبت اور آفت سے بچ جاؤ گے اور فرمایا کہ ”عضو اعلیٰها بالنواحد“ (اس کو دانتوں سے پکڑو) یہ عربی کا محاورہ ہے اردو میں کہتے ہیں اس کو دانتوں سے پکڑنا (یعنی کس کے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا) عض کے معنی دانت سے انسان کے گوشت کو دبالینا جیسے دانت سے کاٹنے والا جانور دانت سے ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ دبالتا ہے اسی سے ایک دوسرا محاورہ عربی میں انگلیوں کو دانت سے دبانے کا ہے اسی سے ”عضو الانامل“ آتا ہے یہ بھی محاورہ ہے یا اس وقت کہا جاتا ہے جب آدمی کسی بات پر رنج و افسوس میں ہو اور دانت سے انگلیوں کو دبارہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پر کے محاورہ میں یہ فرماتا تھا کہ میری سنت اور صحابہؓ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑلو، اگر ایسا کرو گے تو خطرہ سے بچ جاؤ گے۔

”وَايَاكُمْ وَمَحَدَّثَاتُ الْأُمُورِ“ دین کے معاملہ میں نئی نئی باتیں ایجاد ہوں تو ان سے بچو ”وَايَاكُمْ وَمَحَدَّثَاتُ الْأُمُورِ“ اپنے کو بچاؤ اور بچو یعنی لوگ اپنے فائدوں کی غرض سے محض اندازوں سے دین کے اندر نئی باتیں کرتے رہتے ہیں ان سے بچو اور یہ دین کے معاملہ میں ہے دنیا کے معاملہ میں نہیں دنیا کے معاملہ میں آدمی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق کام کرے لیکن دین کے معاملہ میں جہاں اسے اللہ کی رضا کا معاملہ ہوتا ہے اس میں اگر کوئی نئی بات ایجاد کی جاتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تو وہ ”مُحَدَّث“ ہے، یعنی نئی کردی گئی ہے، نئے نئے اختیار کردہ معاملات سے بچو جن کو لوگ دین بناتے

ہیں حالانکہ وہ دین نہیں ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے بتایا اور کہا یا کیا ہے یا صحابہ کرامؐ نے کہا اور کیا ہے اس کے علاوہ جوئی چیز اختیار کی جائے گی وہ دین نہیں بلکہ بدعت ہے، بدعت کا مطلب دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے اور دین کے اندر نئی بات کا ایجاد کرنا کسی کا حق نہیں کیونکہ دین مکمل کر دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا ”**الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيِنَّكُمْ**“ (میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا) دین مکمل ہو گیا اب کوئی نئی بات دین میں داخل نہیں ہو گی ”وَكُلْ بَدْعَةً ضَلَالٌ“ (حدیث) اور فرمایا ہر نئی بات اور نئی ایجاد یعنی جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لا ہی ہوئی باتوں سے الگ ہو گی مگر اسی ہو گی، ہدایت وہ ہے جو اللہ اور رسول ﷺ سے ہم کو ملی، مگر اسی وہ ہے جو دین میں نئی بات اختیار کی گئی جس کی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے یہاں کوئی سند نہیں اور رہنمائی نہیں ملتی وہ بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت و مگراہی ہے۔

(مذکورہ بالامضمون وہ تقریر ہے جو مسجد سیدنا ابو بکر صدیقؓ مپت مولکھنوں میں ختم ریاض الصالحین کے موقع پر کی گئی)

## سیرت و اخلاق کی تعمیر میں حدیث کا کردار

قرآن مجید کی آیت ہے ”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ“ کہ اللہ کے یہاں دین تو اسلام ہے، یعنی زندگی کا وہ طور طریق قابل قبول ہے جو اسلام میں بتایا گیا ہے، ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ ”وَمَنْ يَتَّسَعْ غَيْرُ إِلَّا سَلَامٌ دِيَنًا فَلَمَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ“ کہ جو شخص اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے علاوہ دوسرے طریقوں کو اختیار کرے گا، تو وہ عند اللہ قبول نہیں کیا جائے۔ اور اسلام کا بتایا ہوا طور و طریق وہ طور و طریق جو ہم کو قرآن مجید سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم کے برتر ہوئے اور بتائے ہوئے احکام اور عمل سے پہنچا ہے اور وہ اللہ کو خداۓ واحد مان کر اس کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق طریقہ زندگی اختیار کرنا، دوسرے معنوں میں اپنے کو خداۓ واحد کے حکموں اور مرضیات کے حوالہ کر دینا ہے، اور یہی اسلام کے لفظی معنی ہیں اور مسلمان سے یہی مطلوب بھی ہے، کہ وہ خود کو اپنے پروردگار کے حوالہ کر دے، یعنی اپنی مرضی کو اس کی مرضی کا تابع کر دے۔

یہ بات اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں نہیں ہے، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں مذہب کا مطلب ایک یا کئی خداوں کو مانتے ہوئے صرف ایک متعین طریقہ سے ان کی عبادت کر لینا ہے، ان کے یہاں مذہب زندگی کے دوسرے

پہلوؤں کے لئے کوئی متعین احکام نہیں رکھتا ہے۔ لیکن اسلام میں ایک محدود عقیدہ اور کچھ متعینہ شکلؤں کی عبادت ہی نہیں بلکہ عقیدہ و عبادت کے ساتھ ساتھ معاملات و معاشرت اور اخلاق کے لئے خصوصی ہدایات اور رہنمائیاں ہیں، اس میں عدل و انصاف، اخلاق کی درستگی اور نیکی، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، ظلم و زیادتی سے گریز، بے حیاتی اور گندی باتوں سے پرہیز، ترافت و انسانی خوبیوں کو اختیار کرنا ہے۔ یہ تمام باتیں اسلام میں دین کے اندر ہی داخل ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں جگہ جگہ انبیاء علیہم السلام کے تذکرہ میں آتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برداشت کرو، کہیں آتا ہے کہ ناپ تول میں بے ایمانی نہ کرو، اور کہیں آتا ہے نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اسی طرح اسلام نے دین کو پوری انسانی زندگی پر پھیلا دیا ہے اور زندگی کو اس کا پابند بنایا ہے، جس کا بیان قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام یعنی حدیث شریف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اسلام نے زندگی کے تمام پہلوؤں کو دین کے احاطہ میں کر دیا ہے، چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ”الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَمَ الْمُسْلِمُونَ مَنْ لِسَانَهُ وَ يَدَهُ وَ الْمَهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهِيَ اللَّهُ عَنْهُ“ کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی زیادتی سے تمام مسلمان محفوظ رہیں، اور ہجرت کرنے والا دراصل وہ ہے جو ان تمام باتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اسی طرح اسلام کے ماننے والے کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کیا حکم اور کیا طریق کا ضروری اور مفید ہے، اس کی تفصیل ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور احکامات میں ملتی ہیں، اور یہ احکامات آپ کی احادیث میں پھیلے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی

تیس سال ہوتی، تیرہ سال مکہ مکرمہ میں جو آپ نے دین کی دعوت و تبلیغ میں صرف کی اور اس کے سلسلہ میں لوگوں کی بے اعتنائی، ایذار سانی اور حکمیوں کو برداشت کرنے میں گزاری، آپ نے یہ سب برداشت کیا، کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ قرآن کے حکم کے مطابق عمل کرتے رہے، جو اس مرحلہ کے لئے دیا گیا تھا، کہ نماز (یعنی عبادات الہی) کو ادا کرو اور اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھو، یعنی کسی کی شرارت اور ایذا رسانی کا جواب نہ دو، انتقام نہ لو، حتیٰ کہ ہجرت فرمادیتہ منورہ آئے، پھر دس سال مدینہ منورہ میں لوگوں کو دین اسلام کی طرف متوجہ کرنے اور دین اسلام کی تفصیلات بتانے اور ان پر عمل کروانے میں گزرے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر کفار کی زیادتیوں کا جواب دینے کی اجازت ملی، اور کفار نے جب مسلمانوں پر حملہ کئے اور جنگیں کیں تب آپ ﷺ نے اپنے رفقاء کے ساتھ ان حملوں اور جنگوں کا مقابلہ کیا، اور بہادری اور غیرت دینی اور اسلام کو سر بلند رکھنے والے جذبہ سے کام لیا، اور ان جنگوں میں بھی اعلیٰ انسانی اقدار کا لحاظ رکھا، یہ سب آپ ﷺ کے رفقاء اور ساتھ دینے والوں (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کافوں سے سنا اور ان سب پر عمل کیا، اور اپنے بعد والوں کو سنایا، بتایا، پھر ان کے سننے اور دیکھنے والوں نے اپنے بعد کے لوگوں کو بتایا اور سنایا، اور یہ سب حدیث شریف کے ذخیروں میں محفوظ ہو گیا، حدیث کے معنی گفتگو اور باتوں کے ہیں، حدیث رسول کا مطلب رسول کی باتیں اور گفتگو کے ہوئے، اور یہ سب گفتگو اور باتیں دین اسلام کی باتیں ہوئیں۔

رسول کی باتیں ارشادات اور ہدایات میں وہ ذخیرہ ہے جن سے دین اسلام اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ سامنے آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے، اس طرح حدیث شریف اللہ تعالیٰ کے کلام ”قرآن مجید“ کے ساتھ اسلام کی تمام باتوں کا

ذخیرہ اور خزانہ ہے، اسی لئے مسلمانوں کو اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق کرنے کے لئے حدیث کو سنتا، پڑھتا اور معلوم کرنا ہوتا ہے، قرآن مجید اور حدیث شریف اصلًا عربی زبان میں ہے، حدیث شریف میں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات اور رہنمائی کا ہے جن کا تعلق زیادہ ترمذہب کے عبادتی اور معاملاتی پہلو سے ہے، اور پہ زیادہ ترقہ کے نام سے اور مسائل عبادات و احکام الہی کے جاننے کے لئے باقاعدہ پڑھا جاتا ہے۔

حدیث شریف میں دوسرا حصہ اخلاق و سیرت سازی سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کا اخلاق کی درستگی اور سیرت سازی میں اور انسان کی زندگی اور طور و طریق کو بہتر بنانے اور ترقی دینے میں بڑا کردار ہے، حدیث کے مسائل عبادات و احکام فقه تو کوئی بھی عالم دین حسب ضرورت و طلب بتا سکتا ہے اور مدرسہ میں پڑھ سکتا ہے اور یہ سلسلہ الحمد للہ دور اول کے بعد ہی سے قائم چلا آرہا ہے، لیکن دوسرا پہلو جو اخلاق کی درستگی اور سیرت سازی کا ہے، اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے کیونکہ اصلاح باطن اور تقویٰ اور خوف خدا خوف آخرت سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے لئے حدیث شریف میں بڑا ذریعہ اور اس کے مضامین اس کا بڑا ذخیرہ ہیں۔

---

## تربیت و سلوک میں رعایت اور گفتگو میں ادبی حسن

رسول مقبول حضرت محمد صطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین تھے، انسانوں کی ہدایت اور راہِ حق کی نشاندہی اور وضاحت کے لئے رب العالمین کی طرف سے بھیج گئے تھے، ان کی زندگی کا کام دینِ حق کا پہنچانا اور شریعتِ اسلامی کی وضاحت تھی، لیکن وہ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ انسان تھے، انسانی احساسات، تاثرات، معاملات سے ان کو بھی اسی طرح واسطہ پڑتا تھا، جس طرح کسی انسان کو پڑتا ہے، دعوت دین کی راہ میں ان کو صعوبتیں پیش آتی تھیں، وہ ان صعوبتوں کو انسان ہونے کے ناطے محسوس کرتے تھے، اہل تعلق سے محبت، حادث پر رنج، خوشی کے موقع پر مسرت آپ کو بھی انسانوں کی طرح ہوتی تھی، جہاں ان احساسات و تاثرات کے اظہار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع محسوس کرتے، ان کا اظہار فرماتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادہ حضرت ابراہیمؑ کی وفات پر اپنے تاثر و رنج کا اظہار فرمایا، جس میں ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور احتیاط کا پورا اظہار ہے، دوسری طرف انسانی تاثر کے سچے اظہار کے لئے بہت فصح اور موثر طرزِ ادا ہے، فرمایا:

”القلب يحزن ، والعين تدمع ، ولا نقول إلا

ما يرضي رب ، وأن على فراقك يا إبراهيم !

لمحزون“

”دل رنجیدہ ہے آنکھ میں آنسو آرہے ہیں، لیکن ہم وہی کہتے ہیں جس سے رب راضی ہو، ہم تمہاری جدائی سے اے ابراہیم رنجیدہ ہیں“

ذرا حقیقت کی عکاسی دیکھئے اور طرز ادا کی احتیاط دیکھئے، کیا یہ ادب نہیں؟ آپ ﷺ نے ایک موقع پر خواتین کی نزاکت کی کیفیت کا لحاظ اپنی عبارت میں اس طرح فرمایا کہ کہا : ”رفقاً بالقواریر“ اس میں آپ ﷺ نے خواتین کو آگینوں سے تشبیہ دی، ایک موقع پر آپسی اختلاف کی گنجائش نہ بتاتے ہوئے فرمایا : ”لا یستطح فیه عتران“ یعنی اس معاملہ میں دو بکریاں آپس میں سینگ نہ لڑائیں گی، ذرا بکریوں کے یہ انداز سامنے رکھئے کہ دو بکریاں جب اکٹھا ہو جاتی ہیں، اپنے اگلے پیروں کو اٹھا کر سینگ لڑاتی ہیں، آپ ﷺ نے اس انداز کو دو شخصوں کی آپسی کشمکش کے اظہار کے لئے اختیاب کیا، اسی طرح آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ ”هذا یوم له ما بعده“ یعنی آج کا دن ایسا ہے کہ اس کا سلسلہ بعد میں چلے گا، ذرا اس طرز ادا کو دیکھئے، کتنے اچھے طریقے سے کسی قضیہ کے کسی نہ کسی شکل میں جاری رہنے کا امکان بتایا گیا ہے۔

یہ تو جملے تھے، آپ ﷺ کے اس خطبہ کو دیکھئے جو آپ ﷺ نے ہوازن سے واپسی پر مال غنیمت کی تقسیم میں بعض غلط فہمیوں کے ازالہ کے لئے دیا، اور آپ کی مختلف دعاؤں کو دیکھئے، کیسی بار کیکی اور نفیتی کیفیت کا لحاظ اور تاثرات کی پچی ادا میگی ملتی ہے، اس میں اپنی عبدیت اور پروردگار کی عظمت کا پورا احساس اُجاگر ہے۔

مؤثر اور فصح طرز ادا اور دل کو متحرک کر دینے والی تعبیر، دعوت دین کے کام کے لئے ایک ضروری اور مؤثر ذریعہ تھا، امت کی رہنمائی اور تعلیم و تزکیہ کے لئے بھی اس کی ضرورت تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی صلاحیت آپ کو بدرجہ اتم عطا فرمائی گئی تھی، بہر حال آپ ﷺ کی فصاحت اور حسن ادا جو آپ ﷺ کی گفتگو،

خطابت، نصیحت اور اپنے رب کے سامنے اظہار عاجزی، حمد و مناجات میں کھلے طریقہ سے ظاہر ہوتی ہے، آپ ﷺ کی فصاحت کلام و حسن بیان پر سب کو اتفاق ہے، عربوں میں صحبت کلام و فصاحت کے لئے جن اسباب و ذرائع کی ضرورت ہوتی تھی، وہ بھی آپ ﷺ کو بدرجہ اتم حاصل تھے، آپ ﷺ فتح ترین قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے، پھر قبیلہ بنی سعد میں رضاعت کا زمانہ گزار ایہ قبیلہ فتح قبل میں شمار کیا گیا ہے، پھر پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ خیالات و احساسات آپ ﷺ کا طرز رہا، پھر نبوت میں تو بلاغت و اعجاز بیان کا معیاری کلام قرآن مجید آپ ﷺ پر اتارا جانے لگا، وہ آپ ﷺ کا اصل معلم و مریٰ تھا، آپ ﷺ کا قلب و ذہن اور آپ ﷺ کا اسلوب بیان سب نے اس آسمانی معلم سے کسب فیض کیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جہاں ایک طرف مناجاتیں اور دعا میں ہیں، وہاں دوسری طرف قابل قدر اشخاص اور محبین کے ساتھ محبت و تعلق کے بلیغ جملے ہیں اور ان غیار سے گفتگو میں جو کلام فرمایا ہے، اس میں موقع محل کی نزاکت کا موثر لحاظ ہے، آپ ﷺ نے بنی عبد قیس سے جو آپ ﷺ کے قبیلہ قریش کی نظر میں ان غیار تھے، ملاقات کے لئے آنے پر زیادہ دلداری اور ملاطفت کا اظہار موثر ولواز اسلوب میں بیان فرمایا: "مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامى" آپ ﷺ لوگوں کو بہت بہت خوش آمدید آپ ﷺ کوئی بے احترامی کا معاملہ نہیں ملے گا، اور نہ آپ ﷺ کو آنے پر افسوس ہوگا، اس سب کے علاوہ آپ کی زبان مبارک سے متعدد موقعوں پر ایسے جملے نکلے جو کہاوت اور مشل بن گئے اور آج تک ضرب الامثال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

پھر آپ کی گفتگو اور خطاب کو دیکھئے تو وہاں ادبی حسن و تاثیر کی پوری چھاپ ملتی ہے جو دلوں کو موه لیتی ہے، آپ ﷺ کا حضرات انصار سے موثر خطاب، آپ ﷺ کا جھیل الوداع کے موقع پر خطاب، آپ ﷺ کی وہ لنشیں تشریح جو آپ ﷺ نے یہ مثال

دے کر کہ ”برا کام کرنے والوں کو اگران کے رفقاء نے ان کے بارے کام سے نہ روکا تو ان کی ایسی مثال ہو گی کہ کسی دو منزلہ کشتی پر اور پیشے لوگ پنجی منزل میں بیٹھے لوگوں کو اگر دیکھیں کہ وہ دریا سے پانی لینے کے لئے اپنی منزل کے پیندے میں سوراخ کر رہے ہیں اور وہ دوسروں کی مصیبت سمجھ کر ان سوراخ کرنے والوں کو نہ روکیں گے تو دونوں منزل کے سوار تباہ ہو جائیں گے، اسی طرح آپ ﷺ نے اس کی رہنمائی کی وضاحت کرتے ہوئے جو آپ ﷺ تمام لوگوں کے لئے لائے پھر کچھ لوگوں نے مانا، اور کچھ لوگوں نے نہ مانا، آسان اور لنشیں اسلوب میں مثال دیتے ہوئے کہا: ”کہ بارش کا پانی زمین پر بہتا ہے مقامی زمین کو سیراب کرتے ہوئے دور کے لوگوں کو بھی بہہ کر پہنچتا ہے۔ اس طرح دونوں زمینوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن کچھ زمین سپاٹ پھر کی طرح ہوتی ہے، پانی سے فائدہ نہیں اٹھاتی بلکہ ادھرا دھر بہا کر ضائع کر دیتی ہے“ آپ ﷺ نے اس مثال سے زمینوں کے حقیقی فائدہ اٹھانے والے اور اس علم کو ضائع کر دینے یا ناقابل قبول سمجھنے والوں سے بڑے سہل اور بلیغ انداز میں تشبیہ دی آپ ﷺ نے اپنی زوجہ مطہرہ کی ولداری کے لئے ان کو دلچسپ اور ادبی زبان میں ایک تبصرہ سنایا جس میں متعدد زبیویوں نے اپنے اپنے شوہروں کے بارے میں اظہار رائے کیا تھا وہ تبصرہ حدیث ام زرع کے نام سے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔

مسلمانوں کی بڑی خصوصیت اور اہم صفت قرآن مجید میں یہ بتائی گئی ہے کہ:

”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ“ (سورہ آل عمران: ۱۱۰)

کہ تم وہ بہترین قوم ہو جو تمام انسانوں کے لئے نکالی گئی ہو، تم اچھی

بات کی طرف متوجہ کرتے ہو اور بُری بات سے منع کرتے ہو اور اللہ

پر ایمان رکھتے ہو۔

مسلمانوں کی یہ صفت و خصوصیت قرآن مجید میں صرف بتائی ہی نہیں گئی ہے بلکہ اس کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ تم میں ایک تعداد ایسی ہوئی چاہئے کہ جو اچھی باتوں کی طرف دعوت دیتی ہو اور نیکی کی تلقین کرتی ہو اور اچھی بات کی ہدایت کرتی ہو اور بری بات سے منع کرتی ہو:

”وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَذْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ“ (سورہ آل عمران: ۲۰)

اور یہ فرمایا گیا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔

”وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“

یہ خصوصیت اور صفت مسلمانوں کی کامیابی کا ذریعہ بتائی گئی ہے اور مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی کامیابی کا راز اسی صفت میں رکھا گیا ہے۔ اس پر عمل کرنے کی بنابرود دنیا میں ہر جگہ پھیلیے ہیں۔

ہم کو اپنے حالات اور واقعات کے سلسلہ میں اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہئے،

قرآن مجید میں آتا ہے:

”وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبْتُ أَيْدِيهِكُمْ وَيَغْفُرُ عَنْ كُثُرٍ“ کہ تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا، ہی حاصل کیا ہوا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی اپنے پروردگار کے حکموں سے روگروانی اور برے اعمال اختیار کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بہت کچھ معاف بھی کر دیتا ہے، یعنی تمہارے بہت سے گناہوں کی گرفت نہیں کرتا بلکہ معاف کر دیتا ہے، ذرا ہم اپنے گریناں میں منہڈاں کر دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے خلاف کتنی حرکتوں اور بری عادتوں میں مبتلا ہیں ہم کو غور کرنا چاہئے اور اللہ کے غضب کو بلا نے والی چیزوں سے بچنا چاہئے، خالم کا مقابلہ اسی جگہ پر ہے اس کو ضرور سزا ملنی چاہئے اور وہ انشاء اللہ

ملے گی، لیکن ہم دینی و اخلاقی لحاظ سے اپنے کو دیکھیں کہ ہم نے اللہ کے غصب لانے والے کام تو نہیں کئے اگر کئے ہیں تو ان کی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اس طرح اس کی ناراضی سے بچ سکیں گے اور اس کی رحمت و مدد کے مستحق بن سکیں گے اور جب اس کی مدد ہوگی تو کوئی بھی ہم کو کچھ بھی گز نہ نہیں پہنچا سکے گا۔

---

## سیرت نبوی ﷺ اور ادب

اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ارْشَادٌ فِرْمَاتَاهُ  
 ”خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ“

”کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو قوت بیان یعنی اچھا پیرایہ کلام سکھایا،“

اور قرآن مجید کی خوبی بتاتے ہوئے فرمایا کہ:

”وَإِنَّهُ لِتَنزِيلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هُنَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ هُنَزَّلَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ هُنَزَّلَ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا مُّبِينًا هُنَزَّلَ“  
 ”اور یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ (جبریل) لے کر آیا ہے آپ کے قلب پر صاف عربی زبان میں ہتا کہ آپ بھی مخملہ ڈرانے والوں کے ہوں“

اور اپنے برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء کرام کے متعلق فرماتا ہے کہ:  
 ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ“  
 ”کہ ہم نے جب کوئی رسول بھیجا تو اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ اچھے پیرایہ میں ان کے سامنے بات رکھ سکے“

اور خود قرآن مجید میں صاف و لشیں اور اثر انگیز پیرایہ میں بات کی گئی ہے۔

انسانی زندگی بہت متنوع ہے اور وہ احساسات و جذبات کی آماجگاہ ہے، اسلام دین فطرت ہونے اور انسان کی فطری ضرورت کا لحاظ رکھنے کی وجہ سے زندگی کے تمام پہلوؤں کی رعایت رکھتا ہے۔ ادب کا کام زندگی کی ترجمانی ہے۔ ادب الفاظ کے ذریعہ زندگی کے احساسات کی عکاسی کرتا ہے۔ لہذا ہم جب ادب کے ساتھ اسلامی کا الفاظ و ابستہ کرتے ہیں تو یہ بتانے کے لئے وابستہ کرتے ہیں کہ اسلام کے جائز کئے ہوئے و سمع دائرہ زندگی میں کسی بھی امر کے لئے جو الفاظ موصود کا میاب ترجمانی کر سکیں، ان کے ساتھ جو ادب ہو وہ اسلام کا ہوتا ہے، اس طرح ادب اسلامی محض دعویٰ دائرہ میں یا محض وعظ و نصیحت کے اندر محدود نہیں اس کا دائرہ صحت مندا اور اسلام کی طرف سے جائز کردہ زندگی کے تمام احساسات کی ترجمانی کا ہے۔ شاعری میں مدح سرائی ہو، غزل ہو یا مرثیہ گوئی ہو، اور نشر میں افسانہ ہو، ناول ہو یا کوئی انسائیہ ہو خطبہ ہو یا خطوط ہوں وہ سب ادب ہونے کے ساتھ اسلامی دائرہ کے اندر سماںے کے لائق ہونے پر صفت اسلامی سے متصف ہونے کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اس کے نمونے مسلمانوں کی تحریروں اور تقریروں کی طویل تاریخ میں بہت ملتے ہیں، اور ان سے مسلمانوں کی زندگی پر اچھے اثرات بھی پڑے ہیں، اور ان سے نو خیز ذہنوں اور مزاجوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ اسلام میں ادب کی سرپرستی اور ہمت افزائی اہل علم و اہل ذوق نے تو کی ہی ہے بہت سے قائدین نے بھی کی ہے۔ قرن اول میں بھی ادب سے دلچسپی کی مثالیں خاصی ملتی ہیں اولاً تو اس کی سرپرستی قرآن و حدیث سے ہوتی ہے۔ جس کی مثالیں ہم کو اچھی خاصی ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جہاں ایک طرف مناجاتیں اور دعا تیں ہیں وہاں دوسری طرف قابل قدر اشخاص اور محبین کے ساتھ محبت و تعلق کے بلیغ جملے ہیں اور ان غیارے سے گفتگو میں جو کلام آپ ﷺ نے

فرمایا ہے اس میں موقع محل کی نزاکت کا موثر لحاظ ہے۔

اور آپ ﷺ کی زبان مبارک سے متعدد موقعوں پر ایسے جملے نکلے جو کہاوت اور مثل بن گئے اور آج تک ضرب الامثال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ پھر آپ ﷺ کی گفتگو اور خطاب کو دیکھئے تو وہاں ادبی حسن و تاثیر کی بڑی چھاپ ملتی ہے جو دلوں کو مودہ لیتی ہے۔

اسی طرح آپ ﷺ نے ایک موقع پر اپنی سواری پر شریک سوار سے جاہلیت کے دور کے ایک شاعر کا کلام کہہ کر سننا، کلام اچھا اور دین کی حمایت میں تھا، آپ ﷺ نے سن کر فرمایا کہ ان اشعار کے شاعر کی زبان نے اسلامی مزاج کے مطابق کام کیا لیکن اس کا دل کافر ہی رہا، الفاظ تھے آمن لسانہ و کفر قلبہ آپ ﷺ نے کعب بن زہیر سے اپنی مدح میں قصیدہ مذہبیہ سنا اور باوجود اس کے کہ اس کے قصیدہ میں جاہلی دور کا پورا انداز تھا لیکن وہ نیانیا مسلمان ہو رہا تھا اس کو اسلام کا تقاضہ اور طرز معلوم نہ ہو سکا تھا لہذا آپ ﷺ نے صرف سنا ہی نہیں بلکہ اس پر انعام بھی دیا۔ اس کے علاوہ آپ ﷺ اپنے صحابہ کرام کے شعر کہنے کو نہ صرف پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے بلکہ مسلمان ہو جانے والے شاعروں کو اپنی شاعری دین کی حمایت میں استعمال کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ ﷺ نے خود شاعری نہیں کی لیکن نثر میں بڑی بلاغت اور ادبیت ظاہر فرمائی۔ آپ ﷺ نے انسانی سرشت بتاتے ہوئے ایک بار ایک واقعہ قصہ کی شکل میں اور سہل انداز میں بیان کیا۔ اس قصہ میں ایک ناپینا، ایک گنجے اور ایک کوڑھی کے طرز عمل کا تذکرہ فرمایا اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جن میں زندگی کے مختلف پہلوؤں اور ان کے انسانی فطرت و احساسات اور نفسیاتی حال کی عکاسی آپ ﷺ کے کلام بلاغت نظام میں بکثرت ملتی ہیں جو ہم کو متوجہ کرتی ہیں کہ ادب اسلام سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ لیکن وہ اسلام کے سایہ میں صحت مندانہ انداز سے چلتا اور کام کرتا

ہے۔ اور ہماری مراد اسلامی ادب سے وہی ادب ہے جو زندگی کی رہنمائی انسان کی صحت مندانہ مصلحتوں اور تقاضوں کے مطابق کرتا ہو، اور باوجود تنوع اور وسعت کے صحت مندانہ دائرہ سے باہر نہ چلا جائے۔ ایسا ادب نہ صرف مسلمانوں کی ضرورت ہے بلکہ تمام انسانوں کی ضرورت ہے۔ وہ انسانی قدروں کا محافظ اور انسانوں کی خوشی و رنج میں شریک مسروت و نعمگسارالم بھی ہے، اس کی سرشنست اسلامی ہے، مذاق انس و ہمدردی ہے، دائرہ کار میں زندگی اور پوری انسانیت ہے اور عہد نبوت سے شروع ہو کر آئندہ مستقبل کے اندر دور تک پھلا ہوا ہے۔

ہم کسی بھی ادبی نمونہ کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کے تعین کے لئے اس کو ان وسعتوں اور احتیاطوں کے دائرے میں رکھتے ہوئے دیکھنا ہو گا جو ہم کو اسلام کی طرف سے واضح رہنمائیوں میں بتائی گئی ہیں۔ وہ ادبی نمونہ جس قدر ان سے مطابقت رکھتا ہو گا اسی قدر اس کو اسلام کے نقطہ نظر سے صحیح سمجھا جائے گا۔ اور جس قدر ان سے گریز اس ہو گا اسی قدر اس کو اسلامی نقطہ نظر سے دور سمجھا جائے گا۔

مکہ کے ایک شاعر جو مذاہب کی تعلیمات سے واقف ہو گئے تھے اور اپنی شاعری دوزخ، آخرت، خدا، اس کی رضا جیسے خیالات سے واقف ہو گئے تھے اور اپنی شاعری میں ان کا تذکرہ کرتے تھے لیکن اس سے ان کو ایسی ضد ہوئی کہ اس کی بری طرح مخالفت کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک رفیق سفر سے ان کے اشعار ننانے کی فرماش کی اور بار بار فرمائش کر کے سنتے رہے۔ پھر فرمایا کہ ”آمن لسانہ و کفر قلبہ“ (ان کی زبان نے تو ایمان والی بات کہی لیکن ان کا دل ایمان نہ اختیار کر سکا)

اسی طرح ایک شاعر مسلمان ہوئے اور انہوں نے ایک نظم کہی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور شاعرانہ مضمون کے ساتھ بڑائی کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ

نظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ آپ ﷺ نے اس کو خوش اخلاقی کے ساتھ سننا، اس نظم میں ایک شعر ایسا آیا جس میں تعالیٰ کا انداز حدود بشریت سے آگے بڑھتا ہوا محسوس ہوتا تھا شعریہ تھا کہ:

بلغنا السماء مجدنا و جدودنا

وان السر جو فوق ذلك مظهرا

”کہ ہماری عزت و عظمت آسمان تک پہنچ چکی ہے۔ اور اب ہم  
امید کرتے ہیں کہ اس سے بھی آگے جائے گی۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو خدا تعالیٰ کے مقام سے گستاخی کا شہر کرتے ہوئے ٹوکا، لیکن آپ ﷺ نے اچھے انداز میں مناطب کرتے ہوئے فرمایا کہاں تک پہنچنے کا قصد ہے اے ابو لیلی (ابو لیلی شاعر کی کنیت تھی) انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ جنت تک۔ آپ ﷺ اس جواب سے مطمئن ہو گئے کہ ان کے کلام میں شان خداوندی سے برابری دکھانے کی شوخی نہیں ہے۔ آپ ﷺ کا ان کے اشعار خوش اخلاقی سے سنا پھر ایک شعر میں جو ایک شک پیدا کرنے والا مضمون محسوس ہوا، اس پر ٹوکنا ایک رہنمائی کا ذریعہ بن گیا، کہ شاعر کو فخر کرتے ہوئے کہ حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہئے۔

اسلام نے مسلمانوں کا جو ذہن بنایا تھا اور ان کے خیالات، امتنگوں اور حوصلوں کو اس کے دائرے کا پابند کیا وہ ذیل کے ایک واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ جاہلیت کے اصولوں میں یہ بات تھی کہ آدمی اگر اپنے خاندان کا یا اپنی پارٹی کا ہے تو وہ اچھا ہے۔ آنکھ بند کر کے تائید و مدد کا حقدار ہے اور قابل محبت و تعلق ہے۔ لیکن اگر وہ مخالف خاندان یا یکمپ کا ہے تو خواہ حق پر ہو رواداری کا مستحق نہیں۔ چنانچہ یہ فقرہ محاورہ بن کر راجح ہو گیا تھا کہ اپنے آدمی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم، اسی کے مطابق

جاہلیت کا شاعر کچھ لوگوں کی تعریف میں کہتا ہے کہ:

لایسالون اخاہم حین یند بهم

فی النائبات علی ماقال برہانا

”کہ یہ لوگ جب حادث جنگ پیش آتے ہیں تو اپنے بھائی سے  
یہیں پوچھتے کہ تم جنگ میں شرکت کے لئے بارہ ہے ہو تو کس  
بات پر جنگ ہے، یعنی آنکھ بند کر کے مدد کرتے ہیں۔“

وما انما الام من غزية ان

غوت غویت وان ترشد غزية ارشد

”کہ میں تو قبیلہ غزیہ سے ہوں وہ خراب کام کریں گے تو میں بھی  
خراب کام کروں گا، وہ اچھا کام کریں گے تو میں بھی اچھا کام  
کروں گا۔“

بہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت و انصاف پسندی کی تعلیم دیتے  
ہوئے اس ذہنیت سے منع فرمایا۔ اس طرح مسلمانوں کے لئے یہ راجح فقرہ ناقابل  
قبول ہو گیا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فقرہ استعمال فرمایا کہ  
اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم۔ صحابہ کرامؐ کا چونکہ آپ ذہن بدل  
چکے تھے، انہوں نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کرنا تو  
ہم سمجھتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ظالم کی مدد اس  
طرح ہوتی ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، اس طرح آپ ﷺ نے اسلامی ذہن کے لئے وہ  
حدود بتادیئے جہاں تک مسلمان جاسکتا ہے اور جہاں سے اس کو آگے نہ بڑھنا چاہئے۔

مسلمان کو خواہ ادیب ہو خواہ شاعر ان سرحدوں کو جاننا ہو گا، اور ان کی پابندی  
کرنی ہو گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں جن کو آپ ﷺ کی ہر نمائی ملی

تھی، شاعر بھی تھے اور ادیب بھی۔ وہ اسلام کی بتائی ہوئی وسعتوں ہی میں اپنے ادب و شاعری کو چلاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو اجازت بلکہ تائید حاصل رہتی ان کی شاعری کی وسعتوں میں مدح بھی تھی اور مرثیہ بھی، غزل بھی تھی اور بھوجبھی، واقعہ بیانی بھی تھی اور احساسات کا اظہار بھی۔ لیکن ان سب میں رعایت تھی انسانی قدروں اور اسلام کی حدود کی ان کی اس احتیاط کو اس عہد کے مقتدر اسلامی شاعر حضرت حسان بن ثابت الانصاریؓ کے اس جملہ سے سمجھا جاسکتا ہے جو انہوں نے اس موقع پر کہا جب قریش کے بعض ایسے افراد کی طرف سے جو حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز تھے، آپ ﷺ کی ہجوگرنے کے جواب دینے کے ارادہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ تم ان لوگوں کی نذمت کیسے کرو گے جب کہ میں خاندانی طور پر انھیں میں سے ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں آپ ﷺ کو ان میں سے ایسا نکالوں گا جیسے گیلے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔

اچھی اور موثر زبان میں مختلف رعایتوں کے ساتھ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی ہجوم کی اور خوب کی اور انہوں نے اپنے ایک دوسرے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے کہا:

فَانْ أَبِي وَوَالدَّهِ وَعَرَضَى

لِعَرَضَى مُحَمَّدٌ مِنْكُمْ وَقَاءِ

”بلاشبہ میرے باپ اور میرے دادا خود میری آبرو یہ سب محمد صلی اللہ

علیہ وسلم کی عزت کے لئے تھمارے حملہ روکنے کے لئے سینہ سپر ہیں“

انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دفاع اور ان کے بدخواہوں

کی بدخواہی کے مقابلہ کے لئے اپنی شاعرانہ صلاحیت کو خوب خوب استعمال کیا اور

اپنے فتحی ہنر کا اظہار کیا، انہوں نے اپنی شاعری میں زور پیدا کرنے کے لئے غزل کی

اصطلاحیں اور تعبیریں بھی فصاحت و جدت طرازی کے ساتھ استعمال کیں۔ اور چونکہ وہ معقول حدود سے باہر نہ تھیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، بلکہ ایک موقع پر آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ اسلام کی نصرت توار اور تیر سے کی جاتی ہے اور شعرو شاعری سے بھی کی جانا چاہئے۔ حضرت حسان ؓ اپنی اس سخن گوئی کی بنا پر شاعر اسلام اور شاعر الرسولؐ کہلائے۔ اشعار کے اندر جذبہ و احساس و تاثر کی جو ترجیحی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے صحیح انداز میں پورا محسوس کرتے تھے۔

اس کی اہم مثال وہ اشعار ہیں جو آپ ﷺ کے قریشی عزیز کو ان کی اسلام دشمن سرگرمیوں کی بنا پر ان معافیوں میں شامل نہ کئے جانے پر جو فتح مکہ کے موقع پر عام طور پر دے دی گئی تھیں قتل کر دیئے جانے پر ان کی بہن نے کہے تھے۔ اور ادب میں آپ ﷺ کو ممتاز کرتے ہوئے رنج و انجا کا موثر انداز اختیار کیا تھا۔ ان کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تاثر کا اظہار فرمایا کہ یہ اشعار اگر پہلے سنے ہوتے تو رعایت کر دیتے۔

نشر کا دائرہ قرآن مجید کے نزول سے قبل عربوں میں بہت محدود تھا۔ قرآن مجید کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ذریعہ وسیع ہوا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی ادبیت کا اظہار ہوا۔ آپ ﷺ اس میں تمام دیگر عربوں کے لئے معلم و رہبر نظر آتے ہیں۔ آپ کی تقریریں، گفتگویں، تذکرے اظہارت اثر، دعاً میں و مناجاتیں عربی کا بہترین ذخیرہ ادب ہیں۔ اور آپ ﷺ کے زمانہ اور آپ کے زمانہ کے بعد کی نشر پر آپ ﷺ کے ادب کی نمایاں چھاپ ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقسام کلام میں آپ ﷺ کے یہاں بھی تنوع ملتا ہے۔ مثلاً زان و شوکے آپ سی تبصروں پر بھی ایک گفتگو آپ ﷺ کے اور آپ ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان ہوئی تھی جو آپ ﷺ نے بیان فرمائی اور وہ حدیث

میں محفوظ ہے۔ اس میں اس خاص گوشہ ادبی کی بھی نمائندگی ملتی ہے۔ یہ حدیث ام زرع کے نام سے موسم ہے۔

احادیث کے تعلق سے ایک مثال ہمیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر میں بھی ملتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد انصار کے سامنے فرمائی تھی یہ وہ موقع تھا جب آپ ﷺ نے مال غنیمت کا بڑا حصہ قریش کے درمیان تقسیم فرمادیا تھا اور انصار کو اس سے محروم رکھا تھا اس پر ان کے ایک شخص کو یہ خیال پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی طرف داری کی ہے اور اس کے ساتھ جانب داری برتری ہے اور اس انصار کے قبیلہ کو جو قربانی و جاں شاری اور فدائی میں آپ کا شریک رہا ہے نظر انداز فرمایا اور اس کا حق پورا ادا نہ کر سکے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ﷺ نے انصار کو جمع فرمایا۔ آپ ﷺ ان کی اس عارضی جذباتی کیفیت کے ساتھ ساتھ ان کی حقیقی ذہنیت کو بھی جانتے تھے چنانچہ آپ ﷺ نے ان کی اسی نفسیاتی کیفیت اور ذہنی حالت کی رعایت کرتے ہوئے انھیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

اے گروہ انصار! تمہاری سر گوشیاں اور چہ می گوئیاں کیا ہیں، تمہارے دلوں میں کچھ احساس شکایت ہے، کیا تمہیں اس کا خیال نہیں آتا کہ جب میں نبی ہو کر تمہارے پاس پہنچا تو تم گم کر دہ راہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ تمہیں صحیح راستہ پر لگایا، اور تم غریب تھے اللہ تعالیٰ نے میرے واسطہ سے تمہارے لیے دولت کے ذرائع پیدا کر دیئے، تم آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ سے تمہارے دلوں میں محبت و اتحاد اور آپس کی الگت پیدا کر دی۔

۷۔ انصاری حضرات بولے، سچ ہے احسان و کرم اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی کا ہے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا اے گروہ انصار! تم نے میری بات کا جواب نہیں

دیا، انہوں نے عرض کیا! اللہ کے رسول ﷺ ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ سب احسان و کرم ہم پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی کا ہے، تب آپ ﷺ نے فرمایا دیکھو تم اگر کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو اور کہو گے تو سچ کہو گے اور میں تمہاری تصدیق بھی کروں گا، تم کہہ سکتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت آئے جب لوگ آپ ﷺ کو جھٹالا رہے تھے، ہم نے آپ ﷺ کی تصدیق کی، لوگوں نے آپ ﷺ کا ساتھ پھوڑ رکھا تھا، ہم نے آپ ﷺ کی مدد کی، لوگوں نے آپ ﷺ کو طلن سے نکال دیا، ہم نے آپ ﷺ کو پناہ دی، آپ کم مائیگی میں تھے، ہم نے اپنے مال سے آپ ﷺ کی کم مائیگی دور کی، یہ سب تم کہہ سکتے ہو، اے گروہ انصار! کیا تم کو مجھ سے شکایت دنیا کی ایک چیز اور معمولی چیز پر ہو رہی ہے، وہ معمولی چیز جس کے ذریعہ میں نے ایسے کچھ لوگوں کو جو دل سے میرے قریب نہیں آ رہے تھے اسلام نہیں لائے ہیں قریب کرنا چاہا اور تم کو تمہارے ایمان و اسلام پر چھوڑتے ہوئے اس میں حصہ نہیں دیا۔

اے گروہ انصار! کیا تم یہ نہیں پسند کرو گے کہ دوسرے لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تمہارا حاصل اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جس کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹو گے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے تم جو چیز لے کر لوٹو لے وہ اس چیز سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ لے کر اپنے گھروں کو جائیں گے، میرا تعلق تو تم سے ایسا ہے کہ اگر بھرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا (یعنی انصاری خاندان میں ہی مدینہ میں پیدا ہوتا) اگر انصار ایک راستہ اور گھٹائی میں چل رہے ہوں اور دیگر لوگ دوسرے راستہ اور گھٹائی میں چل رہے ہوں تو میں انصار ہی کے ساتھ ان کی گھٹائی میں چلوں گا اور انھیں کا ساتھ دوں گا، انصار کی مجھ سے قربت ایسی ہے جیسی لباسوں میں جسم سے وابستہ لباس کی ہوتی ہے، دوسروں کا نمبر اس کے بعد کا ہے، اے اللہ! انصار پر رحم فرماء، ان کی اولاد پر رحم فرماء، اور ان کی اولاد پر رحم فرماء،

راوی کا کہنا ہے کہ یہ پُر اثر باتیں سن کر لوگ اتنا رونے کے ان کی داڑھیاں اشکوں سے بھیگ گئیں اور وہ چلا اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حصہ میں آئے اس پر ہم پوری طرح راضی اور خوش ہیں (زاد العاد)

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تین جہتوں سے نفیاتی کیفیت کی رعایت پر مشتمل ہے، اول یہ کہ آپ ﷺ نے ان کے اس جذبہ اور احساسِ تعلق کو ابھارا جو انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور وہ سب تھا جس میں اتباعِ کامل اسلام پر یقین اور اس کو ہر چیز پر ترجیح، پھر قربانی و جانشانی کا وہ جذبہ جو تمام صحابہ کرام میں غالب اور حاوی تھا اور اسی جذبے نے مسلمانوں کی جماعت کو کفار کے مقابلے میں طاقت و قوت اور جلادت و صلابت عطا کر کھی تھی اور جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ ان کے اس جذبہ کو حرکت دینے اور بیدار کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور ان سے اس کا اقرار کرالیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احسانات بے حد و بے شمار ہیں، تو پھر آپ ﷺ نے دوسرے پہلو پر توجہ دی، یعنی ان کی طرف سے پذیرائی خصوصی تعاون اور اخلاص کی قدر اور اس کا اقرار و اعتراف فرمایا، اور ان کے ایمانی تعلق کو موثر ڈھنگ سے سراہا اس طرح ان کے دلوں میں جاگزیں رنج کو دور فرمایا، اس میں آپ ﷺ نے ان کے فطری بشری احساس کی پوری رعایت فرمائی اور تسلیم فرمایا کہ انہوں نے مشکل حالات میں آپ ﷺ کو خوش آمدید کہا اور آپ ﷺ کا استقبال کیا، آپ ﷺ کا ساتھ دیا اور اس محبت و ایمان کے راستے میں ہر طرح کی قربانی پیش کی، پھر جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ ان کے دل کھل گئے اور ان میں جوشکاری اثر پیدا ہوا تھا وہ زائل ہو گیا اور وہ اپنی سابق صفاتے قلب پر لوت آئے تو آپ ﷺ نے انھیں ان کے ایمان کی قدر و قیمت اور قربانی و جانشانی میں ان کے مقام و مرتبہ سے آگاہ فرمایا، ان کے لئے دعا فرمائی، ان کی تعریف کی، اپنے لئے ان کی محبت کی قدر

شناہی فرمائی، اسے سراہا، ان پر شفقت کا اظہار فرمایا اور اپنے کو پورے اخلاص کے ساتھ ان کے اندر شامل بتایا، اور خود کو انھیں میں کا ایک فرد گردانا، ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شدت تاثر سے روپڑے اور ان کے دلوں سے گروغمبار حچٹ گیا، اس طرح آپ ﷺ کا کلام مخاطب کی نفسیاتی کیفیت کی رعایت کرنے کی ایک عمدہ و لکش مثال ہے کہ گفتگو کے وقت اس کے حسب موقع طرز تجاوط استعمال کیا جائے اور اس کے لئے اس کے مناسب کیفیات کے حامل الفاظ کا انتخاب کیا جائے۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں موثر ڈھنگ ہنگ پر بات کرنے کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں اور ادب کے متنوع پہلو ملتے ہیں، مثلاً گفتگو، خطابت، حکایت، نصیحت، دعا، اظہار، تاثر اور رعایت، ذوق ادبی، ان سب اصناف سخن کی مثالیں حدیث شریف کی کتابوں میں چند دو چند موجود ہیں، اور ان سیاس عہد کے لوگوں پر بڑا اثر پڑا۔ اور بہت سے ان کے اثر سے آپ ﷺ کی طرف کھنچ کھنچ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کے اصحاب نے اور تابعین پھر تبع تابعین اور بعد میں بھی آپ ﷺ کے طریقہ کی نقل کی گئی، چنانچہ خلفاء راشدین اور ان کے بعد متعدد شخصیتیں پر اثر زبان اور موثر کلام میں ممتاز ہوئیں۔

اس لئے ضروری ہے کہ ہر داعی اور مصلح اپنے دعوت کے کام میں اس کی رعایت کرے یہ چیز اس کے مقاصد دعوت کے لئے موزوں اور مقصود تک پہنچنے میں معاون ہوتی ہے۔

## کلام رسول ﷺ ادبی بلاغت کا شاہر کار

بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اپنے اندر ایک ایسا اثر انگیز ادبی مواد رکھتا ہے جس میں طاقت و رسانی جذبہ اور ریقق انسانی تاثر کی تصویر کشی اور ادبی رعنائی و برنائی پائی جاتی ہے اور جذبہ تاثر کے یہ نقوش خاص طور پر آپ ﷺ کی ان احادیث اور کلام میں زیادہ نمایاں ہیں جو فطری انسانی جذبات اور نفسیاتی حالات و کیفیات پر مشتمل ہے۔

یہ ادیبانہ طرز اور مورث و دلکش اسلوب ادبی دائرے میں بحث و نظر کے مستحق ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے فنی خصائص کے ذریعہ ان شریفانہ اغراض و مقاصد کی بھی خدمت کرتے ہیں جن کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی دنیا میں بعثت ہوئی، یعنی دعوت و تربیت اور ان سے متعلق امور میں بھی ان سے بڑی مدد ملتی ہے اسی لیے ادب نبوی کا یہ پہلو اس کا مستحق ہے کہ کلام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلچسپی رکھنے والے ادباء و محققین خاص طور سے اس کی طرف توجہ کریں اور اس میں دلچسپی لیں، کیونکہ یہ زندگی کے ایک اہم پہلو کی نمائندگی کرتا اور اسے دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس پہلو کے بعض حصے اپنے پرائیویٹ اور خجی واقعات سے متعلق آپ ﷺ کے اظہار خیال کے موقع پر اور آپ ﷺ

کے ساتھ پیش آنے والے مخصوص نفیتی فطرت کے حامل معاملات میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ موثر اور والہانہ انداز میں آپ ﷺ کی دعاؤں میں نمایاں ہیں۔

جہاں تک اجتماعی و معاشرتی مواقع کی بات ہے، جو بعض وقت جذباتی کیفیت کے حامل ہوتے ہیں تو آپ ﷺ کی حیات طیبہ میں لوگوں کے ساتھ آپ ﷺ کے اظہار رائے و اظہارتائر کے مواقع پر اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں ملتی ہے، جو آپ ﷺ نے وفد عبد القیس کی آمد کے موقع پر فرمایا تھا، عبد القیس ربیعہ کا ایک قبیلہ ہے اور قبیلہ ربیعہ کے اور آپ ﷺ کے قبیلہ مُضر کے درمیان کشمکش اور چشمک مشہور و معروف رہی ہے اس چشمک کی موجودگی میں اس بات کا پورا احتمال تھا، کہ ارکان وفد کے دلوں میں (اگر ان کے ساتھ توجہ میں کمی، استقبال میں رواروی سے کام لیا گیا تو) آزردگی پیدا ہو جائے۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت و نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا تدارک فرمایا، اور وفد کا استقبال ایسے جملہ سے کیا جو اس صورتحال سے اچھی طرح عہدہ برآ ہو سکے، آپ ﷺ نے فرمایا: مرحباً بالقوم غير خزايا ولا ندامى ۝ آئینے آپ لوگ، آپ کو خوش آمدید ہے، آپ کو یہاں آ کرنہ ناقدری کا احساس ہو گانہ مکتری کا اور نہ آپ کو یہاں آ کر کوئی افسوس ہو گا، اس طرح آپ ﷺ نے ارکان وفد کے قلوب میں یہ اطمینان و اعتماد پیدا کیا کہ وہ معزز اور محترم ہیں ان کی آمد دوسروں کے لیے باعث سرست ہے، ایسا نہیں ہے جیسا کہ پہلے تھا کہ غیر ہونے کے باعث کوئی توجہ ہمدردی نہیں ملتی تھی۔

لہذا وہ اپنے آپ کو پر دیکی اور دیار غیر میں تازہ وارد نہ سمجھیں، اور مغایرت و بے توجہی کا احساس نہ کریں، جس کا اہل عرب کے ایک کمپ واٹے دوسرے کمپ میں جا کر احساس کرتے تھے، ان کے لیے ایسا بھی نہیں کہ بعد میں وہ نا دم ہوں کہ وہ

ایسے شخص کے پاس گئے جس نے ان کا اکرام و احترام نہیں کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت و طاقت کی ایسی پوزیشن میں تھے کہ آپ ﷺ ان کے لیے صرف معمولی اہتمام ظاہر کرنے پر اکتفا فرم سکتے تھے اور کسی ایسے شخص یا وفاد کی طرف سے جو آپ ﷺ سے لینے اور فائدہ اٹھانے کے لیے آ رہا ہو، غیر معمولی حساسیت کی کوئی پرواہ نہ کرتے، کیونکہ وہ لوگ طالب تھے اور آپ ﷺ مطلوب، وہ طلب و سوال کی پوزیشن میں تھے اور آپ عطااء و بخشش کے مقام پر فائز تھے۔

ایک دوسری مثال بزرگ ایرانی صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ”سلمان منا اهل البيت“ (سلمان ہم میں سے ہیں جیسے گھر کے افراد ہوتے ہیں۔) یہ جملہ اپنے اندر جہاں مکارم اخلاق کا ایک خوبصورت اور حسین مفہوم رکھتا ہے، وہیں دوسری جانب ایسی لفظی تعبیر پر مشتمل ہے جس سے اطمینان و اعتماد کا اشارہ ملتا ہے وہ لفظی تعبیر خاص طور پر ”منا اهل البيت“ کا کلمہ ہے اور پورا جملہ ادب نبوی کا شاہکار ہے۔ نیز اس جذباتی کیفیت سے بھی متعلق ہے۔ جوان جیسے حالات میں لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے، کیوں کہ حضرت سلمان ﷺ عرب نہ تھے، بلکہ ایرانی تھے اور ایرانیوں اور عربوں کے درمیان نسلی تعصیب بڑھا ہوا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں نازک نفیاتی جذبہ و کیفیت کی ایک مثال ہم اس وقت پاتے ہیں جب آپ ﷺ اپنے محبوب چچا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے صدمہ سے دوچار ہوتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب کے ساتھ ایسا تعلق تھا، جس میں خاندانی وحدت و قرب سی کا تعلق اور چچا سنتیجے کی محبت نے جذباتی ارتباط وہم آہنگی پیدا کر دی تھی، ایک طرف تو وہ آپ ﷺ کے دو دھر شریک اور ہم عمر تھے تو دوسری طرف

آپ ﷺ کے مشق پچھا تھے آپ ﷺ کے ساتھ ان کی محبت و شفقت کا یہ عالم تھا۔ کہ انہوں نے جب یہ سنا کہ ابو جہل نے برسر عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کی ہے آپ ﷺ کو ایذا پہنچائی ہے، اور سخت وست کہا ہے، تو انہیں سخت طیش آیا اور ان کا جوش غصب اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اور انہوں نے عزیز ترین بھتیجے کا انتقام لینے کے لئے ابو جہل کے ساتھ نہایت درشت معاملہ کیا اور ایسی چوٹ لگائی کہ اسے زخمی کر دیا اور بھتیجے سے اپنا تعلق ثابت کرنے کے لئے حلقہ بگوش اسلام ہونے کا اعلان کر دیا، پھر اس کو نبھایا اور تا حیات اسلام اور پیغمبر اسلام کے لئے سینہ سپر رہے اور اپنی جواں مردی و شجاعت سے آپ ﷺ کی مدد کرتے رہے۔ حضرت حمزہ قریش کے ممتاز اور بہادر ترین نوجوانوں میں سے ایک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے تعلق کی وجہ سے ان سے محبت فرماتے تھے، اور ان کو اپنا قوت بازو، سہارا، حامی و مددگار اور رفیق و انبیاء پاتے تھے۔

یہی عظیم و محبوب پچا غزوہ احمد میں اسلام کے لئے کارہائے نمایاں انجام دینے کے بعد جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ دشمن ان کے جسم کی کاث پیٹ کر دیتا ہے۔ ان کی لغش کے ساتھ اہانت کا معاملہ کرتا ہے اور ان کی شکل و صورت بگاڑ دیتا ہے، اب اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حادثہ کا کتنا برا اثر ہوا ہوگا، اور آپ ﷺ کے قلب اطہر کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ جب کہ رفت و نزی اور شفقت و محبت آپ ﷺ کے خمیر میں شامل تھی۔ اور یہ موقع آپ ﷺ کی تکلیف اور احساس رنج کے اعتبار سے سخت ترین موقعوں میں سے تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دردناک واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ ﷺ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی تلاش میں نکلے، چنانچہ آپ ﷺ نے انہیں برساتی نالہ

(وادی) کے اندر اس حال میں پایا کہ ان کا پیٹ چاک کر کے جگر نکال لیا گیا تھا، اور ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، بایں طور کہ ان کی ناک اور دونوں کان کاٹ دیئے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حمزہؓ کی لاش پر پہنچ تو آپ ﷺ نے فرمایا: میرے لئے اس حادث سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت نہیں۔ میرے دل کو تکلیف و غصہ اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، نیز یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے (اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا) کا خیال نہ ہوتا کہ اس بات سے انہیں رنج ہوگا۔ اور میرے بعد یہ چیز سنت بن جائے گی۔ تو میں انہیں (حمزہؓ کو) یوں ہی بے گور و کفن چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ انہیں درند و پرند کھا لیتے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی بھی لڑائی میں قریش پر غلبہ عطا فرمایا تو میں ان کے تین آدمیوں سے بدلہ لوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت تاثر کی وجہ سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے معاملہ انتقام کے خلاف تھا اس لئے آپ ﷺ نے اس پر عمل نہیں فرمایا، صرف اپنے الفاظ میں مقدار تاثر کا اظہار کیا تھا۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر (غزوہ احمد میں فتح و کامرانی حاصل کر لینے کے بعد) بنی الاشہل سے تعلق رکھنے والے قبیلہ انصار کے گھروں میں سے ایک گھر پر ہوا، اور وہاں آپ ﷺ نے نوحہ کرنے والیوں کا اپنے مقتولین پر گریہ و بکا اور نوحہ سناتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمہا نے مبارک اشک آلود ہو گئیں۔

اور آپ ﷺ روپڑے، پھر آپ ﷺ نے درد بھرے لہجہ میں فرمایا: ”لکن حمزہ لا بو اکی لہ“ (لیکن حمزہؓ کے لئے رونے والے نہیں ہیں) چونکہ مہاجرین اپنے اپنے خاندانوں کے افراد مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے، لہذا مدینہ میں ان کے افراد خاندان گئے چنے تھے پر دلیں میں وطن جیسے اہل قرابت کی ہمدردی کہاں ہو سکتی ہے؟ چنانچہ حضرت حمزہؓ کے اہل خاندان بھی کم تھے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہؓ

کے لئے غریب الوطنی کا اندازہ دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا، سوچنے کی بات ہے کہ رنج و الم کے جذبات سے پریمی الفاظ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، حالانکہ آپ ﷺ نبی ہیں اور بشریت کی لغزش کلامی اور خلاف اولیٰ باتوں سے پاک ہیں، لیکن خوب چکاں مصیبت کے احساس نے آپ ﷺ کو بے تاب کر دیا۔ اس جملہ سے آپ کے رنجیدہ اور زخمی قلب کی تصویر کیشی ہوتی ہے۔ ادھر انصار کو رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے احساس رنج اور آپ ﷺ کے ارشاد گرامی کہ ”لِهُكَنْ حَمْزَةُ لَابُوكَيْ لَهُ“ کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم کی طرف نسبت کر کے اظہار غم کریں۔ بس پھر کیا تھا، ہر طرف حضرت حمزہؓ کے نام سے اظہار غم ہونے لگا۔ اور نالہ غم کے الفاظ بلند ہوئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان عورتوں کے مسجد کے دروازہ پر پہنچ کر حضرت حمزہؓ کی شہادت پر اظہار غم کرتے سناتو فرمایا: اللہ تعالیٰ انصار پر رحم فرمائے۔ انہوں نے غم خواری میں دینہیں کی، عورتوں سے کہو کہ واپس چلی جائیں۔

اور ابن کثیر کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے عورتوں سے فرمایا: تم لوگ واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت ہو، تم نے اپنی طرف سے غم خواری کا حق ادا کر دیا۔ اور جس کی چند مثالیں ”مشتبہ نمونہ از خروارے“ کے بطور آپ کی نظرؤں سے گزریں۔

جو شخص کلام نبوی پر اس حیثیت سے نظر ڈالتا ہے وہ اس میں مختلف موثر نمونے اور بہت سے ایسے نفیاتی پرتو پاتا ہے جن سے ایک ایسے انسان کی تصویر ہوتی ہے جو اپنی انسانی زندگی کے ہر ناحیہ میں سچا اور امانت دار، اس میں ایک نبی کی بلندی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی و رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، ایک ایسے انسان کی رقت و زرمی ہے جس نے سب کے ساتھ محبت، سب کے ساتھ سچائی اور

سب کے لئے طلب خیر کے جذبہ پر نشونما پائی ہو، ایک ایسے انسان کی سادگی ہے جو اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور ایک ایسے رسول کی عالی حوصلگی اور بلند ہمتی ہے جس نے اپنے پیغام پہنچانے اور اپنی امانت ادا کرنے کا پختہ عزم کر رکھا ہو، چنانچہ نہ وہ اکتاتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ بحث و مباحثہ کرتا ہے اور نہ سودے بازی کرتا ہے، بلکہ اپنی کامیابی کے لئے مسلسل جد و جہد اور پیغم کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﷺ عَلَّكَ بِاسْعَى نَفْسَكَ أَنْ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید آپ ﷺ غم میں اپنی جان دے ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و صلی اللہ علی نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔

---

# کلام نبوی میں

## دعا و مناجات کے شہ پارے

عربی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موثر نشری نمونے ہیں جو پچ انسانی تاثرات، پاکیزہ و بلند پایہ قلبی احساسات اور بلیغ ترین اسلوب و طرز ادا پر مشتمل ہیں اور اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سراپا تقویٰ تھی اور پچ انسانی احساسات سے آراستہ تھی، آپ عربوں کے فصح ترین قبیلے قریش میں تولد ہوئے اور فصح ترین ہی قبیلے بنو سعد میں آپ کی نشوونما ہوئی۔ پھر آپ ﷺ نے وحی الہی اور الہام سماوی کی آغوش میں تربیت پائی۔ پھر خوان قرآنی سے بہ طریق احسن کسب فیض فرمایا، بھلا اب آپ سے زیادہ پاکیزہ گفتار، شیریں کلام، راست گو اور بلیغ و موثر تعبیرات والا کون ہو سکتا تھا ممّا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی طرف سے آپ پر بے شمار درود وسلام ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ادب پارے سب کے سب نشری ہیں۔ کیوں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی شعر نہیں کہا۔ اس کی شہادت خود کتاب الہی دے رہی ہے:

”وَمَا أَعْلَمُنَّهُ الشِّعْرُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذُكْرٌ“

## قرآن مبین ۵

”کہ ہم نے ان کو شعر کھانا نہیں سکھایا اور یہ چیز آپ کے لئے مناسب نہ تھی۔ آپ کے پاس تو ذکر الہی اور فصاحت و بیان کا حامل قرآن ہے“

کلام نبوی بیک وقت سادہ بھی ہے اور پرکار بھی، اس میں بے تکلفی بھی ہے اور شیرینی بھی، چھوٹے چھوٹے جملوں میں گویا معانی کی ایک دنیا آباد ہے، محل اگر اختصار کا مقتضی ہے تو کلام موجز و مختصر ہے اور اگر ضرورت دراز نفسی کی طالب ہے تو کلام طویل ہے۔ آپ ﷺ کی گفتگو تکلف و قصص سے پاک اور روائی دواں ہوتی تھی۔ آپ ناموس اور اجنبی کلام سے دور اور سو قیانہ، بازاری الفاظ سے نفور تھے، آپ ﷺ کا کلام ادب کی مختلف عمدہ اصناف پر مشتمل ہے، مثلاً تمثیلاتِ فائقہ، اقوالِ حکیمانہ و عالیہ، امثالِ نفیسه، وصایائے مفیدہ، رشد و ہدایت، شریعت و تربیت اور مناجات و دعا وغیرہ، پھر ان تمام اصناف میں سب سے زیادہ پرتاشیر، اپنے رب کے حضور آپ ﷺ کی دعائیں اور مناجاتیں ہیں، یہ دعائیں اس قدر طاقتور، جامع اور پراثر ہیں کہ ان سے عربی ادب میں نہ صرف یہ کہ ایک نئی صنف کا آغاز ہوا بلکہ اس نے ادب کی طاقتور ترین صنف کا درجہ حاصل کر لیا۔ اسلوب کے لحاظ سے یہ دعائیں متنیں ہیں اور معنویت سے لبریز بھی، نیز دعا کرنے والے کے اندر وہ احساسات، اس کے ابلتے ہوئے جذبات اور اپنے رب کے حضور اس کی لجاجت و انکساری کی عجیب و غریب بلیغانہ تصور کر شی کرتی ہیں۔

اس کی ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جو آپ ﷺ نے طائف میں فرمائی تھی، جہاں آپ ﷺ ایک اجنبی اور غریب الوطن کی حیثیت رکھتے تھے اور کسی حامی و مددگار کی تلاش میں تشریف لے گئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات

ہے جب آپ ﷺ کے چچا ابو طالب وفات پاچکے تھے، جو قوم کی ایذاوں سے آپ ﷺ کو بچاتے تھے، اور آپ ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وفات پاچکی تھیں، جو آپ ﷺ کی معاون غم گسار تھیں، لیکن طائف جو مکہ جیسا ہی شہر تھا، وہاں کے باشندوں کے درمیان آپ کو اہل مکہ سے بھی زیادہ سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، یعنی وہاں کے رہسائے نے آپ ﷺ کو سختی کے ساتھ جھڑک دیا اور وہاں کے شرارت پسند آپ ﷺ کے پیچھے لگ گئے، پھر انہوں نے آپ ﷺ پر اس قدر پتھر برسائے کہ آپ ﷺ کے دونوں پائے مبارک لہو لہاں ہو گئے، اس وقت آپ ﷺ کا دل شدت الہم سے چور چور تھا اور تعجب جسمانی بھی بے پناہ تھا۔ ظالموں نے مکہ سے طائف تک کے طویل سفر کے بعد آپ ﷺ کو دم لینے کی مہلت بھی نہ دی تھی، اس لئے آپ ﷺ طائف کی آبادی سے باہر نکل کر ایک کھلی ہوئی جگہ میں بیٹھ گئے، جہاں شاید بجز آپ ﷺ کے خادم غلام حضرت زید بن حارثہ کے نہ کوئی ہوس تھا نہ غم گسار۔ آپ ﷺ نے اس حال میں یہ دعا فرمائی جو آپ ﷺ کی زخموں سے چور لیکن حلیم شخصیت کی راست ادبی تصور ہے:

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضُعْفَ قُوَّتِيْ ، وَقِلَّةَ حِيلَتِيْ  
وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، رَبِّ  
الْمُسْتَضْعَفِينَ أَنْتَ رَبِّيْ إِلَى مَنْ تَكَلَّنِيْ ؟ إِلَى بَعِيْدِ  
يَتَّجَهُهُمْنِيْ ، أَمْ إِلَى عَدُوْ وَمَلَكَتُهُ أَمْرِيْ ؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ  
بِكَ غَضَبٌ عَلَى فَلَأُبَالِيْ ، عَيْرَأَنِ عَافِيَتَكَ هِيَ لَهُ لَهُ  
أَوْسَعُ لِيْ ، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقْتَ لَهُ  
الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، مِنْ أَنْتَ  
يَحِلُّ بِيْ غَضَبُكَ ، أَوْ يَنْزِلَ عَلَى سَخَطُكَ ، لَكَ لِهِ لِلْحِلَّ

لَمْ يَرَهُنْ لِلَّهِ إِلَّا حَتَّىٰ تَرْضَىٰ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

ت لفون ہے اللہ ایں اپنی بے طاقتی و ناتوانی، اپنی تدبیروں کی بے  
القدریش مسروقہ سامانی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قعیتیکی آپ ہی سے  
لہلہ لا عرض معروض کرتا ہوں، اے کمزور سمجھ لئے جانے والوں کے  
لہلہ لا پلانہار! آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کیا اس دور دراز  
تھبیدت شخص کے جو مجھ سے بڑھی کے ساتھ پیش آتا ہے؟ یا آپ نے  
پھر پھر ہمیزی زمام کار کسی دشمن کو سونپ دی ہے؟ لیکن اگر آپ مجھ سے  
خدا کی خدا راض نہیں تو مجھے ان سب کی پرواہیں ہے، مگر پھر بھی آپ کے  
لہلہ اس بنا یہ عافیت میں میرے لئے زیادہ گنجائش ہے، میں آپ کی  
نیزیت کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے ظلمتیں روشن  
خیکھ لیں اور جس کے سہارے دنیا و آخرت کے تمام امور اپنے صحیح رخ  
پر چل رہے ہیں، اس بات سے پناہ کہ مجھ پر آپ کا غصہ اترے  
اور آپ نارا ضمگی نازل فرمائیں، آپ ہی کا حق ہے کہ آپ کو منایا  
جائے تا آنکہ آپ راضی ہو جائیں، آپ کی مدد کے بغیر نہ کسی  
طاقت کا وجود ہے نہ قوت کا۔“

اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار غالب و قادر و مہربان  
کے سامنے اپنی اس ناتوانی کا بیان فرمار ہے ہیں جو اس وقت عمل اسامنے آئی اور وہ  
یہ کہ رؤسائے ثقیف کے ہاتھوں قریش کے سامنے آپ ﷺ کی ایسی بے قعیتی ہوئی  
جو آپ ﷺ جیسے قریشی کے لئے بالکل نئی چیز تھی، کیونکہ قبلہ ثقیف کے قریش کے  
ساتھ قربی روابط تھے، پھر اپنے پروردگار سے مہربانیوں کی طلب کرتے ہوئے اور  
اس کی جناب میں الحج و زاری کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں:

”رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ“ ”اے کمزور سمجھ لئے جانے والوں کے پالنہار“

پھر اللہ سے رحمت کی خواستگاری کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں:

إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي، أَمْ إِلَى عَذْوَ مَلَكَتُهُ  
أُمْرِي؟ ”آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کیا اس دور  
دراز شخص کے جو مجھ سے بہمی کے ساتھ پیش آئے؟ یا آپ نے  
میری زمام کار کسی دشمن کو سونپ دی ہے؟“

پھر آپ ﷺ کو تنہی ہوتا ہے اور آپ ﷺ کا تاسف و اضطراب کی کیفیت پر  
قاوی پایتے ہیں۔ یہ حقیقت پیش نظر آجاتی ہے کہ آپ ﷺ کا رب ان سب باتوں کو  
جانتا ہے، آپ ﷺ کا کوئی معاملہ اس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور نہ وہ آپ ﷺ سے  
غافل ہی ہے، اسی نے تو آپ ﷺ کو منتخب فرمایا اور منصب رسالت پر فائز کیا ہے،  
نیز تبلیغ رسالت کی ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ تو کیا وہ آپ ﷺ کو یوں ہی بے یار و  
مدگار چھوڑ دے گا؟ لیکن آخر یہ سب کچھ ہوا کیوں کر؟ کیا آپ ﷺ کا پروردگار  
آپ سے ناراض ہے؟ اس لئے عرض کرتے ہیں:

إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَىٰ فَلَا أُبَالِيُّ، غَيْرُ أَنِّي

عَافِيَتَكَ هِيَ أُوسعُ لِي“

”اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو یہ جو کچھ ہوا ہے مجھے اس کی  
پرواہ نہیں ہے۔ مگر پھر بھی آپ کا سایہ عافیت میرے لئے زیادہ  
گنجائش رکھتا ہے۔“

پھر آپ ﷺ سے پناہ کی درخواست، اس کی عظمت و رحمت کا  
تذکرہ اور ہمیشہ کی رضا کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر نہ کسی طاقت  
 وجود ہے نہ قوت کا۔

دعا و مناجات کلام انسانی کی وہ جولان گاہ ہے، جہاں صاحبِ دعا کے باطنی احساسات صاف نظر آتے ہیں، جہاں اس کے بے چین و غم زده دل کی تصویر سامنے آ جاتی ہے اور جہاں جذباتِ مجسم ہو جاتے اور الفاظ کا ایسا جامہ پہن لیتے ہیں کہ ان میں اثر انگیزی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ سننے والے کے دل میں اپنی جگہ بنالیتے ہیں، پھر اگر صاحبِ دعا کا یہ رتبہ ہو کہ زبان و بیان پر اس کی گرفت حاکمانہ ہو اور اس کا کلام بلا غلت نظام، سحر حلال کا درجہ رکھتا ہو تو ایسی صورت میں قاری و سامع، صاحبِ دعا کے الفاظ میں اس کی روح کو چھو کر محسوس کر سکتا ہے اور اسے متحرک و بے قرار دیکھ سکتا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی یہی شان ہے۔ ان میں آپ ﷺ کی مجزانہ بلا غلت پوری طرح جلوہ گر ہے اور یہ ایسی خصوصیات و امتیازات سے مزین ہیں، جن کا سرچشمہ قرآن پاک کی موثر تعلیمات ہیں، کیونکہ اگلے انبیاء و رسول کی دعاؤں اور مناجاتوں کے موثر قرآنی نمونے آپ پر نازل ہوئے اور آپ ﷺ نے انھیں کی آغوش میں تربیت پائی، پھر آپ ﷺ کی حیاتِ مبارکہ کے مختلف احوال کے دوران یہ دعا کیں منصہ شہود پر آئیں۔ یہ دیکھنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے باطنی احساسات کی تصویر کشی اور فن کارانہ ترجمانی کس طرح فرمائی ہے؟ اس کی ایک مثال تو وہ دعا تھی، جس کا ذکر طائف کے سلسلے میں گزر چکا، دوسری مثال دعا ہے بدر ہے۔ اس دن بھی آپ ﷺ پر بے چینی اور اضطراب کی اثر انگیز کیفیت طاری تھی، اس دن مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پہلی بار دشمنان اسلام کے مقابل صفات آ را ہوئے تھے۔ یہ اسلام کے حق میں ایک فیصلہ کن دن تھا۔ وہ اسلام جس کی تبلیغ اور استحکام کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام صلاحیتیں لگادی تھیں، اس کے بچاؤ کی مدد بریں کی تھیں اور اس کی راہ میں آپ ﷺ نے اور آپ ﷺ کے

نیکو کار صحابہ نے ہر طرح کی اذیتیں جھیلی تھیں، یقیناً یہ ایک عظیم الشان اور فیصلہ کن دن تھا۔ اس دن کفار مکہ نکل کھڑے ہوئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اپنی تمام تر طاقت و قوت اور شان و شوکت کا مظاہرہ کریں اور اسلام کے خلاف جو کچھ کر سکتے ہیں، کر گذریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حریف کے مقابل اپنے لشکر کو صرف آرا کیا اور مقدور بھر تیاری اور ساز و سامان کی فراہمی کی، پھر تہائی میں ایک چھپر تھے اپنے رب کے حضور مصروف دعا و مناجات ہو گئے، وہاں بجز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اور کوئی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ ﷺ اپنے رب سے اس مدد کی طلب فرمائے تھے جس کا اللہ کی طرف سے وعدہ تھا دعا کے درمیان زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے۔

اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ الْيَوْمَ فَلَنْ تُعَذِّبَنَا<sup>۱</sup>  
 ”اے اللہ! اگر آج کے دن یہ مٹھی بھر جماعت مٹ گئی تو پھر آپ  
 کی عبادت نہ کی جاسکے گی“

پھر آپ ﷺ کی مناجات اور المحاج و زاری اس قدر بڑھ گئی کہ آپ ﷺ کے رفق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے چین ہو کر کہہ اٹھے۔ اے اللہ کے نبی! اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ ﷺ سے کئے ہوئے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا۔ دعائے بدر کے سلسلے میں راویوں سے بہی چھوٹا سا جملہ منقول ہے، جسے آپ ﷺ کے المحاج و اضطراب کی ایک علامت اور سلگتے ہوئے احساسات کی ترجمانی کہہ سکتے ہیں۔ اگر دعا کی پوری عبارت منقول ہوتی، جس کا یہ جملہ ایک جزو ہے، تو وہ شدت تماشیر اور خوبی ادا کی ایک مثال ہوتی، اس کا کسی قدر اندازہ ہم آپ ﷺ کی ایک دوسری دعا، دعائے عرفات سے لگا سکتے ہیں، یہ دعا آپ ﷺ کے احساسات قلب بریاں کی تصوری اور رب العالمین کے حضور حیث عبودیت خالصہ

کی تعبیر ہے۔ اس دعا کے الفاظ میں ایک خاص طرح کی متنات و جزالت اور اسلوب میں نرمی و لطافت پائی جاتی ہے، عرض کرتے ہیں:

”اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِيْ، وَتَرَى مَكَانِيْ، وَتَعْلَمُ سِرِّيْ وَعَلَانِيْتِيْ، لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِيْ.“

”اے اللہ! آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں، میری صورت حال کو دیکھ رہے ہیں، میرا باطن و ظاہر آپ کے علم میں ہے، میرا کوئی معاملہ آپ سے مخفی نہیں،“

اس کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور اپنی کھلی ہوئی ناتوانی کا اعتراف فرماتے ہیں، کیونکہ وہ آپ ﷺ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ ﷺ کی باتیں سن رہا ہے اور آپ ﷺ کا کوئی معاملہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اپنے رب کے حضور، بندے کی حالت و کیفیت دوسرے تمام احوال و کیفیات سے غایت درجہ مختلف ہوتی ہے، اسے نہ کسی بادشاہ اور اس کی رعایا کی وضع و کیفیت کے مشابہ کہہ سکتے ہیں، اور نہ کسی آقا اور اس کے کسی غلام کی صورت حال کے مثالی ہی قرار دے سکتے ہیں۔ یہاں تو یہ کیفیت ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا ایک بندہ حاضر ہے، جسے اپنے رب کی کامل و ہمہ جہت ربوبیت پر پورا ایمان اور اس کے وسیع و دقيق علم اور قدرت کاملہ پرکلی اعتماد ہے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے اس دعا میں رب عظیم کے سامنے اپنی حالت زار کی تصویر پیش کی ہے۔ چنانچہ عرض کرتے ہیں:

”أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، الْمُسْتَغْيَثُ الْمُسْتَحِيرُ۔“

”میں ہوں بے چارہ مصیبت زدہ محتاج، فریادی، پناہ جوو۔“

آپ ﷺ نے ان کلمات کے ذریعے، اس اشارہ ربانی کی موافقت فرمائی

ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتابِ الٰہی کی ایک سورہ میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وَالضُّحَىٰ وَالْيَلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ

رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝

آگے فرماتے ہیں:

”أَلَمْ يَجِدْكَ تَتَيَّمًا فَأَوَىٰ ۝ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝  
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وقت چاشت اور وقت صحیح کو اس بات کا گواہ بنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا معاملہ توجہ خصوصی اور رحمت خاص کا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے لئے حالتِ احتیاج و ناتوانی میں وسائل زندگی فراہم کئے، اس لئے کہ آپ ﷺ بے وقت ولادت باب کی طرف سے یتیم تھے اور نشوونما کا زمانہ آیا تو اس کی طرف سے بھی یتیم ہو گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو تلف ہونے سے بچایا، پھر جب آپ ﷺ کا کوئی رہنمائی تھا تو منصبِ نبوت سے سرفراز کر کے ہدایت کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح آپ ﷺ حالتِ احتیاج میں تھے کیونکہ وراشت میں آپ ﷺ کو نہ کوئی مال ہاتھ آیا تھا نہ دولت، پھر آپ ﷺ کا کوئی کفیل بھی نہ تھا، کیونکہ آپ ﷺ کی پیدائش سے پہلے ہی والد وفات پاچکے تھے اور ابھی عہد طفویلت ہی تھا کہ والدہ بھی چل بیسیں، پھر کم سنی ہی میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اس طرح جب آپ ﷺ نے روائی دوال زندگی کے حدود میں قدم رکھا تو آپ ﷺ پوری احتیاج و بے سروسامانی میں تھے، لیکن ربِ روف نے آپ کی دست گیری فرمائی اور آپ ﷺ کے لئے اسباب غنی فراہم کر دیئے، تلاوتِ قرآنِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہی اس

لئے آپ ﷺ نے اپنی دعاؤں میں ان تمام امور کو مخوض رکھا ہے، عرض کرتے ہیں:

”أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيْرُ“

پھر جب آپ ﷺ کی نگاہ تبلیغ رسالت کی اس عظیم ذمہ داری کی جانب ملت فت ہوئی، جو آپ ﷺ کے دوش مبارک پر ڈال دی گئی تھی، اور جس کے بوجھ تسلی پشت مبارک گویا ٹوٹی جا رہی تھی، اس کے ساتھ ہی جب آپ ﷺ نے راہ تبلیغ میں اپنی کوششوں کا جائزہ لیا اور انھیں درجہ مطلوب سے کمتر تصور فرمایا، تو آپ ﷺ خشیت طاری ہو گئی، آپ ﷺ ہم گئے اور اعتراف خطا کا اعلان فرماتے ہوئے مصروف دعا ہو گئے:

”الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنِيهِ“

”میں ہی ہوں اپنی خطاؤں کا معرف اور مقر“

پھر آپ ﷺ نے احس ناتوانی و احتیاج اور اعتراف قصور و خطاء کی اس فضامیں کامل درجہ الحاج وزاری کے ساتھ عرض کیا:

”أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ إِبْتَهَالَ

الْمُذَنِبِ الذَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ

دُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقْبَتُهُ، وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ،

وَرَغَمَ لَكَ أَنْفُهُ“

”میں ایک بڑے بے کس کی طرح آپ سے سوال کرتا ہوں اور

اس شخص کی طرح گزگڑتا اور آہ وزاری کرتا ہوں جو خطاء کا رجھی

ہو اور رسواد بے عزت بھی، اور خوف زده آفت رسیدہ شخص کی

طرح آپ کو پکارتا ہوں، جس کی گردان آپ کے آگے جھکی ہوئی

ہو اور اس کے آنسو بہ رہے ہوں اور جس کا بدن احس ذلت

سے دباجا رہا ہوا اور جو کہ احساسِ ندامت سے ناک رگڑ رہا ہو۔“

اس حالت سے بڑھ کر فروتنی اور لجاجت کی اور کون سی حالت ہو گی، جو ایک بے کس، خوف زدہ اور آفت رسیدہ کی حالت ہے، جس میں ناتوانی، بیکسی اور تحریر کی تمام کیفیات جمع ہو گئی ہیں اور جس کی ترجمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب قادر و جلیل کی ربو بیت کے سامنے عبدیت کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمائی ہے، آپ ﷺ اپنی دعائیں آگے فرماتے ہیں:-

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي يَدْعَائِكَ شَقِيقًا، وَكُنْ بِي رَءُوفًا  
رَّحِيمًا، يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ -

”اے اللہ! میں نے یہ دعا جو آپ سے کی ہے، اس میں مجھے ناکام نہ بنایے، مجھ پر مہربان و رحیم ہو جائیے، اے ان سب سے بہترین جن سے مانگا جائے اور اے ان سب سے بہتر جو دے سکتے ہوں“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ذریعہ اپنے رب کو پکارا ہے، اس سے سرفرازی رحمت اور مہربانی کی درخواست کی ہے اور ناکامی و اتنا لاف سے حفاظت چاہی ہے۔

اب آپ ﷺ کے سامنے یہ دعا کامل اور مسلسل صورت میں پیش کی جاتی ہے آپ ﷺ دیکھیں گے کہ اس کی عبارت میں ایک خاص طرح کی ہم آہنگی اور مسحور کن حسن ہے، اسی طرح ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی جانب منتقل ہونے کا عمل بھی فطری محسوس ہوتا ہے، آپ ﷺ عرض کرتے ہیں:-

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِيْ، وَتَرِيْ مَكَانِيْ، وَتَعْلَمُ  
سِرِّيْ وَعَلَانِيْتِيْ، لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْئٌ مِّنْ

أَمْرِيْ، وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، الْمُسْتَغْيِثُ الْمُسْتَحِيرُ،  
 الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ، الْمُؤْرِي الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ، أَسْأَلُكَ  
 مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ وَابْتَهَلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ  
 الْذَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، دُعَاءَ مَنْ  
 حَضَعَتْ لَكَ رَقْبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهُ، وَذَلَّ لَكَ  
 جَسْمُهُ، وَرَغَمَ لَكَ أَنْفُهُ، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَاءِ لَكَ  
 شَقِيقًا، وَكُنْ بِي رَءُوفًا فَارْجِعْمَا، يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ وَ  
 يَا خَيْرَ الْمُعْطِيْنَ -

”اے اللہ! آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں، اور میری صورت حال  
 دیکھ رہے ہیں میرے باطن و ظاہر سے واقف ہیں، میری کوئی بات  
 آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، میں ہوں مصیبت زده، محتاج، فریادی،  
 پناہ جو، ترساں، ہراساں، اپنی خطاؤں کا مقرر اور معرف، میں آپ  
 سے بے کس کی طرح سوال کرتا ہوں، ذلیل گناہ گار کی طرح آپ  
 کے آگے گڑ گڑاتا ہوں۔ خوف زدہ آفت رسیدہ کی طرح آپ کو پکارتا  
 ہوں، اس شخص کی پکار کی طرح جس کی گردان آپ کے آگے جھکی ہوئی  
 ہو، اس کے آنسو آپ کے لئے بہرہ رہے ہوں، وہ فروتنی کئے ہوئے  
 ہو اور آپ کے آگے اپنی ناک رگڑ رہا ہو، اے اللہ مجھے اس دعائیں  
 ناکام نہ بنائیے، مجھ پر مہربان و رحیم ہو جائے، اے مانگے جانے  
 والوں میں سب سے بہتر اور اے دینے والوں میں سب سے بہتر۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو ”مغز عبادت“ بتلایا ہے، فی الواقع یہ  
 دعا کی بہت عمدہ تعریف ہے، اس لئے کہ دعا ایک ایسا عمل ہے جس کے تمام گوشے

اور راویے روحِ عبودیت سے معمور ہوتے ہیں، اسی طرح دعا صاحبِ دعا کے ذہن و دماغ کو اپنے خالق و پروردگار سے حد درجہ قریب کر دیتی ہے، چنانچہ دعا خواں جب اخلاص وطمأنیت کے ساتھ اپنے رب سے حومنا جات ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ اپنے پروردگار کے سامنے جھکا ہوا ہے اور بار بار اسے دیکھے جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کی تعبیر کلمہ "احسان" سے فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں:

"احسان" یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے تو یہ حقیقت ہی ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی یہی کیفیت تھی۔ رہ گئیں آپ ﷺ کی دعائیں اور مناجاتیں تو وہاں یہ کیفیت قوی ترین شکل میں ظاہر ہوتی تھی، چنانچہ آپ ﷺ جب مصروف دعا ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا گویا اس جانی پہچانی دنیا سے نکل کر کسی اور دنیا میں تشریف فرمائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو اسلوب وادا کے لحاظ سے ان قرآنی دعاؤں سے بہت قریب ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا تو آپ ﷺ کی تعلیم کے لیے فرمایا، یا انبیاء سابقین کی دعاؤں کے سیاق میں کیا ہے، آپ ﷺ کی ان دعاؤں کا جائزہ لیا جائے تو قلبِ انسانی ان کی قدر و قیمت کے احساس سے معمور اور ان کے زیر اثر پیدا شدہ فضائل کی بلند پائیگی سے مسحور ہو جاتا ہے، گویا ایک آواز ہے جو کسی اور دنیا سے آرہی ہے، جہاں تک ان دعاؤں کے اسلوب اور طرزِ ادا کا تعلق ہے تو وہ بہت ہی خوبصورت اور لطیف ہے، پرکار اور سادہ ہے، کبھی چشمہ صافی کی طرح سبک خرام اور کبھی چٹانوں کے درمیان سے گزرنے

والے پر شور دریا کی مانند تیز گام، اب ہم آپ ﷺ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے چند مسلسل اور مربوط نمونے پیش کرتے ہیں، جو آپ ﷺ نے مختلف اوقات میں اپنے رب کے حضور کی ہیں، یہ شرح و ترجمانی سے بے نیاز ہیں :

اللَّهُمَّ فَارِجِ الْهَمَّ، كَاشِفَ الْغَمَّ، مُجِيبَ دَعْوَةِ  
الْمُضْطَرِّينَ رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَرَحِيمَهَا، أَنْتَ تَرْحَمُنِي  
فَارْحَمْنِي بِرَحْمَةِ تُغْيِيْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ۔

”اے ہموم و افکار کے دور کرنے والے! غم و لمح کے زائل کرنے والے! مجبوروں و بے بسوں کی پکار سننے والے! اہل دنیا کے رحمن و رحیم! آپ ہی مجھ پر رحم کریں گے تو آپ ایسی رحمت نازل فرمائیے جو مجھے دوسروں کے رحم و ہمدردی سے بے نیاز کر دئے“

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكِيُّ، وَبِكَ  
الْمُسْتَغَاثُ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ  
إِلَّا بِكَ۔

”اے اللہ! حمد کا استحقاق آپ ہی کو ہے، تکلیف و مصیبت کا عرض معروض آپ ہی سے کیا جاتا ہے، فریادرس آپ ہی کی ذات ہے۔ مد آپ ہی سے طلب کی جاسکتی ہے۔ طاقت و قوت آپ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں۔“

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخْطِكَ، وَبِمَعَافِاتِكَ  
مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً  
عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ اللَّهُمَّ إِنَا

نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَ أَوْنُزَلَ، أَوْنُضِلَّ، أَوْنَظِلِمُ  
أَوْيُظَلِمُ عَلَيْنَا، أَوْنَجَهَلَ أَوْيُجَهَلُ عَلَيْنَا، أَعُوذُ بِنُورِ  
وَجْهِكَ الْكَرِيمِ الَّذِي أَضَاءَتْ لَهُ السَّمَاوَاتِ،  
وَأَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَ  
الآخِرَةِ أَنْ تَحِلُّ عَلَىٰ غَضِبُكَ، وَتَنْزِلَ عَلَىٰ  
سَخَطُكَ، وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّىٰ تَرْضَىٰ، وَلَا حَوْلَ  
وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِكَ، اللَّهُمَّ وَاقِيَّةُ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ إِنِّي  
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْأَغْمَيْنَ السَّيْلِ وَالْبَعِيرِ الصَّوْلِ۔

”اے اللہ! میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی رضا کی، آپ کی ناخوشی سے، آپ کے عفو کی، آپ کی عقوبت سے اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں خود آپ سے، میں آپ کی تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتا۔

آپ اسی تعریف کے مستحق ہیں، جو آپ نے اپنی ذات کی خود فرمائی ہے، اے اللہ! ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں بچل جانے سے یا کسی کو بچلانے سے، یا کسی کو گراہ کرنے سے یا کسی پر ظلم کرنے سے، یا خود نشانہ ظلم بننے سے، یا جہالت کرنے سے، یا کسی کی جہالت کا شکار بننے سے، یا گراہ ہونے سے، یا گراہ کئے جانے سے، میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی ذات گرامی کے نور کی، جس سے آسمان روشن ہیں، ظلمتیں تباہ ہیں اور جس کے سہارے دنیا و آخرت کے تمام امور اپنے صحیح رخ پر چل رہے ہیں، اس بات کی پناہ کہ مجھ پر آپ کا غصہ ہو، یا آپ اپنی ناخوشی مجھ پر ظاہر کر دیں، آپ ہی کا حق ہے کہ آپ کو منایا جائے، تا آنکہ

آپ راضی ہو جائیں، آپ کی مدد کے بغیر نہ طاقت ہے، نہ قوت۔ اے اللہ! جس طرح کسی بچے کی نگہبانی کی جاتی ہے، بس ایسی ہی آپ سے نگہبانی چاہتا ہوں۔ اے اللہ! مجھے دو اندھا دھنڈ باتوں یعنی سیلا ب اور حملہ آور اونٹ کے شر سے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔“

رَبُّ أَعِنْتُ وَلَا تُعْنِ عَلَىٰ ، وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَىٰ ،  
وَأَمْكُرْنِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَىٰ ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي ،  
وَأَنْصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ بَغَى عَلَىٰ ، رَبُّ اجْعَلْنِي لَكَ  
ذَاكِرًا ، لَكَ شَاكِرًا ، لَكَ رَاهِبًا ، لَكَ مِطْوَاعًا ، لَكَ  
مُطْبِعًا ، إِلَيْكَ أُواهَا مُنِيبًا ، رَبُّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي ، وَاغْسِلْ  
حَوْبَتِي ، وَاجْبُ دَعْوَتِي ، وَبَثْ حُجَّتِي ، وَسَدْدُ  
لِسَانِي ، وَاهْدِ قَلْبِي ، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي ۔

”اے پروردگار! میری مدد کیجئے اور میرے برخلاف مدد نہ کیجئے، مجھے کامیابی دیجئے اور میرے برخلاف کامیابی نہ دیجئے، میرے لئے تدبیر فرمائیے اور میرے برخلاف تدبیر کو کامیاب نہ بنائے، مجھے ہدایت دیجئے اور میرے لئے راہ ہدایت کو آسان کر دیجئے جو مجھ پر زیادتی کرے اس کے خلاف میری مدد فرمائے، اے اللہ! مجھے ایسا بنادیجئے کہ میں آپ کو بہت یاد کیا کروں، آپ کا بڑا شکر گزار بنوں، آپ سے بہت زیادہ ڈرتا رہوں، آپ کا بہت زیادہ فرمانبردار بنوں، آپ کا بہت زیادہ اطاعت گزار بنوں، آپ ہی سے سکون پانے والا بنوں اور آپ ہی کی طرف متوجہ

ہونے والا اور رجوع کرنے والا رہوں، اے پروردگار! میری  
توبہ قبول فرمائے میرے گناہ دھو دیجئے، میری پکار سن لیجئے میری  
جھٹ قائم رکھئے میری زبان درست رکھئے، میرے دل کو ہدایت  
دیجئے، اور میرے سینے کی کدو رت نکال دیجئے۔“

اللَّهُمَّ إِنِّي قُلْوَبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْتَنَا، وَاهْدِنَا  
سُبُّلَ السَّلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا<sup>۱</sup>  
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي  
أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلْوَبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا، وَتُبْ  
عَلَيْنَا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ  
لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِينَ بِهَا، قَابِلِيهَا، وَأَتْمَهَا عَلَيْنَا۔

”اے اللہ! ہمارے دلوں میں باہم الفت پیدا کر دیجئے۔  
ہمارے باہمی تعلقات درست فرمادیجئے، ہمیں سلامتی کی راہیں  
دکھائیے، ہمیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف پہنچا دیجئے،  
ہمیں ظاہری و باطنی بے حیائیوں سے دور رکھئے، برکت عطا  
فرمائیے ہماری شنوائیوں میں ہماری بینائیوں میں، ہمارے قلوب  
میں، ہماری ازواج میں اور ہماری اولاد میں، ہماری توبہ قبول  
فرمائیے کہ آپ ہی ہیں بار بار توبہ قبول فرمانے والے اور نہایت  
مہربان، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار، شاخواں اور ان کا اہل  
بنائیے اور ہم پر اپنی نعمتیں پوری پوری اتنا دیجئے،“

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْتَنَا وَبَيْنَ  
مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبَلَّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنْ

الْيَقِينُ مَا تَهُوْنَ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبُ الدُّنْيَا،  
وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَفُوْتَنَا مَا أُحِبِّتَنَا، وَاجْعَلْهُ  
الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا  
عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينَنَا، وَلَا  
تَجْعَلَ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمَنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا غَایَةَ  
رَغْبَتَنَا، وَلَا تُسْلِطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحُمُنَا۔

”اے اللہ! ہمیں اپنی خشیت سے اتنا بہرہ مند فرمائیے کہ وہ  
ہمارے اور آپ کی نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور  
اپنی طاعت سے اس قدر حصہ دیجئے کہ اس کے ذریعہ آپ ہمیں  
اپنی جنت تک پہنچا دیں، اور ایمان و یقین سے اس حد تک بہرہ  
و فرمائیے کہ اس کے ذریعے آپ دنیا کی مصیبتوں ہم پر سہل  
فرمادیں، جب تک ہمیں زندہ رکھئے ہمیں ہماری شناویوں،  
بینائیوں اور قوتوں سے مالا مال رکھئے، اسے ہمارا وارث بنائے،  
جو ہم پر ظلم کرے اس سے ہمارا انتقام لیجئے، جو ہم سے دشمنی  
کرے اس کے مقابل ہماری مدد فرمائیے، ہماری مصیبتوں  
ہمارے دین سے متعلق نہ فرمائیے، دنیا کو ہمارا محور، ہمارے علم کی  
معراج اور ہماری غایت محبت کا درجہ نہ دیجئے، بے رحموں کو ہم پر  
سلطانہ فرمائیے۔“

اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُضْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنْنَا، وَأَعْطِنَا وَ  
لَا تُحْرِمْنَا وَآتِنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَأَرْضِنَا وَارْضِ  
عَنَّا۔

”اے اللہ! ہمیں بڑھائیے، ہمارے اندر کی نہ فرمائیے، ہمیں  
با آبرور کھنے رسوانہ کیجئے، ہمیں نوازیے محروم نہ رکھیے، ہمیں  
مقدم رکھئے، ہمارے برخلاف ترجیح نہ دیجئے، ہمیں خوش کر دیجئے،  
اور ہم سے خوش ہو جائیے۔“

اللَّهُمَّ لَا تَدْعُ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًُّا إِلَّا فَرَجْتَهُ  
وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ، وَلَا حَاجَةً مِّنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا  
وَالآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

”اے اللہ! ہمارا کوئی گناہ باقی نہ رہنے دیجئے، معاف فرمائیے،  
کچھ ہموم و افکار باقی نہ رہنے دیجئے دو رکر دیجئے، کوئی قرض باقی  
نہ رکھئے چکا دیجئے اور دنیا و آخرت کی تمام ضروریات پوری  
فرمادیجئے اے ارحم الراحمین۔“

میں دعا ہائے نبوی کے انھیں شہ پاروں پر اکتفا کرتا ہوں، جو ہیں تو بہت  
زیادہ لیکن یہاں تھوڑی مقدار میں پیش کئے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دست بدعا  
ہوں کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور اپنے رسول ﷺ کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے  
اور اسے نبوی کو اپنانے کی، صحیح ایمان اور جذبہ سے دعا کرنے کی کوششوں میں  
کامیاب کرے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ  
كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔“

”تم لوگوں کے لئے یعنی ایسے شخص کے لئے جو اللہ سے اور روز  
آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو رسول اللہ کا  
ایک عمدہ نمونہ ہے۔“

گناہوں سے بُرگشیگی اور طاعات کی قوت اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر متصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بُرگشیگی کی توفیق و طاعات کی رغبت و قوت دے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی سید الخلق و خاتم النبیین  
محمد و آلہ و صحابہ وسلم تسليماً کثیراً کثیراً ۔

(۱) ترجمہ از عربی: مولوی ڈاکٹر احمد صدیقی مدوفی (ماخوذ از مقالات حمد و مناجات و دعاء۔ مطبوعہ دفتر رابطہ ادب اسلامی (عالیٰ) ندوۃ العلماء، لکھنؤ

## ماجھرت نبوی ﷺ

ہماری زندگی میں سب سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ چیز جاہ و مال ہوتی ہے، جاہ تو یہ ہے کہ ہم چشموں میں عزت رہے، نام رہے، پھر یہ عزت مزید بڑھے اور بڑھتی رہے، نام بڑھے اور مشہور ہوتا چلا جائے، ہمارے نفس کی اکٹھنگ و دوایس میں محدود ہو کر رہ جاتی ہے اور بڑے بڑے صاحب فہم و فراست اسی زلف پیچاں میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے جان و مال تک داؤں پر لگادیتے ہیں، پھر مال کا معاملہ یہ ہے کہ زندگی کی سہولتیں، راحتیں چونکہ بالعموم اس سے وابستہ ہوتی ہیں، اس لئے آدمی اس کے لئے جدوجہد کرتا رہتا ہے، پھر یہ اس کا شوق بن جاتا ہے خواہ وہ اس کے زیادہ کام نہ آسکے، لیکن اس کا مالک بننا اور یہ احساس کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے ہم اس کے مالک و مختار ہیں، ایک نشر کی کیفیت رکھنا ہے، اس کی تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ، اگر آدم کے بیٹے کو ایک میدان بھر کر سونا مل جائے تو وہ چاہے گا کہ دو میدان بھر کر مل جائے اور اگر دو میدان بھر کر مل جائے تو چاہے گا کہ تین میدان بھر کر ملے، پھر فرمایا کہ آدم کی اولاد کا پیٹ تو مٹی ہی بھرتی ہے۔

دوسری طرف واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی تمام منگیں، رعنائیاں، خواہشات،

تقاضے، جاہ و مال کی طلب میں وارثگی، سب کی سب آنکھ بند ہونے پر ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان کا وہ پیٹ جو چاندی سونے کے ڈھیروں سے نہیں بھر سکتا تھا صرف قبر کی تھوڑی سے مٹی سے بھر جاتا ہے۔

یہ وقت سخت وقت ہوتا ہے، انسان اپنے تمام مال و متاع، اپنی عزت و شہرت سے اس طرح ہاتھ جھاڑ کر چند فٹ کی جگہ میں سما جاتا ہے جیسے کہ وہ نہ کسی چیز کا مالک تھا اور نہ کسی کشادہ و با عزت جگہ پر ممکن۔

اسلام نے مسلمان کو اس دن اور اس انجام سے غافل ہونے سے منع کیا ہے، اور یاد دلایا ہے کہ سب کو اسی راہ سے گزرنا ہے، اس کا نہ صرف فکر و دھیان رکھنا ضروری ہے بلکہ اس کے لئے تیاری بھی کرنا ضروری ہے، اس سلسلہ میں صرف نصیحت و تاکید پر ہی اکتفا نہیں کی بلکہ اس کی مشق کے لئے مختلف عمل مقرر فرمائے۔ مثلاً روزہ ہے اس میں نفس کی رغباتوں اور بعض سہولتوں سے وقتی طور پر انقطاع اختیار کرنے کا نظام مقرر فرمایا، حج ہے، اس میں اپنے گھر بیار سے کچھ مدت کے لئے دور اور مسافرت کی دشواریوں کو گوا رکرنے کا نظام مقرر فرمایا۔ صدقہ زکوٰۃ ہے، اس میں اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر دوسرے کو دینے کا عمل مقرر فرمایا اور ان سب اعمال میں جذبہ یہ رکھا کہ وہ مر نے کے بعد کام آئے، یہ وہاں سامان و مدد کا ذریعہ بنے جہاں جانے والا اپنے ساتھ کوئی دنیاوی سامان و وسائل نہیں لے جاتا، جہاں وہ ان چیزوں سے ہاتھ جھاڑ کر جاتا ہے اس سلسلہ میں سب سے بڑی اور دور رس مشق صحابہ کرام گوہجرت کے عمل کے ذریعہ کرائی گئی، اس میں اپنے پروردگار کے راضی رکھنے کے لئے، آدمی اپنے گھر بیار کو چھوڑ کر اجنبیوں کے درمیان اور اجنبی ماخول میں منتقل ہو جاتا ہے، اگر معاملہ چند روز کا ہو تو بھی غنیمت ہے، معاملہ تو زندگی بھر کا ہے جس میں اپنی پرانی جگہ پر لوٹنا نہیں ہے اگر کبھی لوٹنا ہے تو صرف محدود وقت

کے لئے اور صرف مسافروں کی طرح۔

وطن کی وہ فضائیں جن میں بچپن بسا ہوا ہو، وہ ماحول جس سے قلب و ذہن مانوس رہا ہو، وہ فوائد جن سے زندگی کی سہولتیں وابستہ رہی ہوں، بالکل ترک کر دینا، ان کے مساوی یا ان سے بہتر تبادل کے لئے نہیں بلکہ محض خدا کو راضی کرنے کے لئے، اور ایک مبہم، مشکوک و نامعلوم مستقبل کے لئے، یہ وہ قربانی ہے جس کا درجہ جہاد کے علاوہ (جس میں جان کی قربانی) ہر عمل سے بڑھ جاتا ہے، چنانچہ جن صحابہ کو بھرجت کی سعادت حاصل ہوئی انہوں نے بڑا مقام پایا، کیوں کہ یہ مشکل ترین کام تھا۔

بھرجت نہ صرف یہ کہ ایک مشکل اور عظیم عمل تھا بلکہ وہ تربیت و تشیلیل سیرت کا ایک بہت اچھا ذریعہ بھی تھا، بھرجت کے ذریعہ جو قربانی دینی پڑتی ہے وہ معمولی نہیں، یہ قربانی انسانی سیرت کی تعمیر کا بہترین ذریعہ بنتی ہے اس قربانی کے بعد سیرت کا وہ پہلو مکمل ہوتا ہے جس کی تکمیل سب سے زیادہ مشکل ہے، یعنی پسند اور راحت کو نظر انداز کر کے نئے حالات کو قبول کرنا، نئے حالات میں ازسر نو حفاظت، عزت، اور ضروریات حیات کے لئے مخت کرنا، اور نئی دنیا اور نئے ماحول میں اپنی جگہ بنانا ہوتا ہے، پھر یہ نئی جگہ پرانی جگہ سے مختلف ہوتی ہے کیوں کہ یہ وراشت میں نہیں حاصل ہو جاتی، اعزہ کے تعاون سے نہیں ملتی، پھر اگر بھرجت صحیح بھرجت ہے تو اس کے لئے ہر طرح کے وسائل نہیں اختیار کئے جاسکتے، اس کے لئے پاکیزہ محتاط اور خشیت الہی سے مزین مزاج اور طریقہ عمل اختیار کرنا پڑتا ہے، اسی لئے اسلام میں بھرجت کا عمل بڑا عظیم عمل ہے، اس سلسلہ میں وہ حدیث نبویؐ بڑی نصیحت رکھتی ہے کہ:

”مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ

رہیں اور ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اُس بات کو ترک کرے  
جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔“

اور ہر سال ربیع الاول کا مہینہ ہم کو یہ عظیم عمل اور عظیم قربانی یاد دلاتا ہے،  
ربیع الاول کا مہینہ ہم کو یہ پیغام سناتا ہے کہ ہمارے رہبر عظم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم  
نے وطن کو، خاندان کو، اور اپنے محبوب مرکز عبادت کعبہ کو اپنے پروردگار کی تابعداری  
بطریق احسن قائم رکھنے کے لئے چھوڑا، اور ایک نئے شہر میں، نئے ماحول میں  
مختلف النسب افراد کے درمیان اپنا مرکز بنایا، ان کے ساتھ تمام مسلمانانِ مکہ نے  
یہی قربانی دی، یہ قربانی اللہ کے لئے تھی، اور مال و متاع اور جاہ منزلت سب کی تھی،  
پھر اسی قربانی سے ان کو نعم البدل ملا اور اسی سے ان کو طاقت، جاہ و عزت حاصل  
ہوئی، اسلام کی اصل اور مضبوط تاریخ کی ابتداء اسی واقعہ ہجرت سے ہوئی۔

ربیع الاول کا مہینہ متوجہ کرتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار  
کے لئے اپنی محبوب چیزوں کو کتنا قربان کر سکتے ہیں اور اس کے راستے میں ہم جاہ و  
مال کی چاہ سے اپنے کو کتنا بلند رکھ سکتے ہیں۔

ماہ ہجرت کے سلسلہ میں ایک طرف تو ہمارے لئے یہ مسرت کی بات ہے  
کہ ہجرت کو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اصحاب نے بطريق  
احسن انجام دیا اور اس اخلاص کے ساتھ قربانی دی کہ وہ رہتی دنیا تک کے لئے  
مثال بنی، ہم اس کا میاہ عمل سے پوری طرح مسرورو خوش ہو سکتے ہیں، لیکن اسی  
کے ساتھ ساتھ وہ جذبہ جو اس عظیم عمل میں تھا دراصل اس کی تقلید و نقل کی ضرورت  
ہے، ہم کو دیکھنا چاہئے کہ اس جذبہ کے کتنے حصہ کو اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں۔

ربیع الاول کا مہینہ بڑا مبارک اور پرمسرت مہینہ ہے، اس میں ہمارے  
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اسی مہینہ میں ہجرت

فرمائی، لیکن یہ مسrt صحیح مسrt اسی وقت بنے گی جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقہ کو اختیار کر کے اور ہجرت کے اندر پائے جانے والے قربانی اور نفس کشی کے جذبہ کو حسب استطاعت اپنانے کی کوشش کریں اور اپنی سیرت و زندگی کو اس کے زیر اثر کرنے اور اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اس کے بغیر خطرہ ہے کہ یہ اظہار رونق و مسrt محض ظاہر داری بن کر نہ رہ جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور ارشاد کے مطابق نہیں ہو سکتی۔

---

## ماہِ سعادت اور نبی رحمت ﷺ

ربیع الاول کا مہینہ خیالات اور مضمایں کا ایک ہجوم لے کر آتا ہے جس کو نہ کوئی ان خیالات اور مضمایں کا حق ادا کرنے کی خواہش رکھنے والا سمیٹ سکتا ہے اور نہ حق ادا کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس خلاصہ کا ذکر کر سکتا ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ان الفاظ میں آیا ہے:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ  
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوِيقٌ رَّحِيمٌ (۱۲۸) اور وَمَا  
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ” (۱۰۷)

پہلی آیت میں عربوں کو خطاب ہے کہ تم ہی میں نبی آیا ہے اور تم ہی میں کا ایک فرد ہے اور اس کو تمہارے دکھ و درد کی بے حد فکر اور احساس ہے، وہ تمہارا بے حد خیال کرنے والا ہے، اور ایمان لے آنے والوں کے لیے تو بہت ہی شفیق اور رحم دل ہے، اور دوسری آیت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحم و کرم بنانا کر بھیجا۔

دونوں آیتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ پہلو کہ ”وہ سارے جہانوں کے لیے ایک کرم و رحمت ہیں“ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ مخفی آپ ﷺ کی مدح

نہیں ہے، بلکہ اس ارض و سماء کے خالق کا قول ہے جس سے حقیقتیں وابستہ ہیں۔  
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا کی کیا حالات تھی اور دنیا کدھر  
 جا رہی تھی اس کو تاریخ کے جائزہ سے بھی معلوم کیا جاسکتا ہے انسان نے خود کو بنی  
 نوع انسان کے مختلف طبقات میں باش رکھا تھا جس میں چند افراد جو طاقت اور  
 وسائل زندگی کے سہارے بڑے بن جاتے تھے، اور دوسروں کو غلام ہی نہیں بلکہ  
 غلاموں سے بدتر بنایتے تھے، ان سے صرف غلاموں کی طرح ہی کام نہیں لیتے تھے  
 بلکہ ان کو اپنی تفریحات کے لیے بھی سفا کی اور ظلم کے ساتھ استعمال کرتے تھے،  
 اپنے جشن اور دعوتوں کے موقعوں پر ان کو پھل بھڑی کی طرح جلا کر مھفل کو سنوارا کرتے  
 تھے، خونخوار جانوروں سے کشتی کراتے اور اس کے شکست کھا کر مرنے کی حالت کو  
 بڑے شوق اور دلچسپی سے دیکھتے تھے اور یہ کام لوگوں کا مجمع جمع کر کے اسٹیڈیم میں  
 ہوتا تھا، اور دوسری طرف سامان عیش و سلطنت رکھنے والے اپنے لیے ایسی نعمتیں  
 اور لذتیں جمع کرنے کے عادی ہوتے کہ ان کے تصور سے آدمی حیران رہ جائے،  
 بادشاہ کے تاج کی قیمت اور اس کے درباریوں کی پیڑیوں کی قیمتیں حیران کن ہوتی  
 تھیں، اور ان کے بغیر وہ اپنے کو باعزت نہیں سمجھتے تھے، کھانے پکانے اور گانے  
 بجائے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی تھی۔

عورت کو صرف عیش کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اور اس کی خاطر اور عزت صرف  
 اسی لحاظ سے ہوتی تھی اس کے علاوہ بھی اس کو مردوں کے مقابلہ میں پست اور نا  
 پسندیدہ سمجھا جاتا تھا، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھائیوں کے مقابلے میں کمتر  
 سمجھی جاتی، اس کو ماں باپ کے ساتھ بھائیوں کی بھی خدمت کرنا لازم ہوتا، ان کی  
 طرح معزز درجہ نہیں دیا جاتا تھا، اور اس کا پیدا ہونا شگون بد اور ایک مصیبت سمجھا  
 جاتا، شادی کے بعد اس کا تعلق اپنے ماں باپ کے گھر سے ختم ہو جاتا، میراث میں

بھی اس کو حصہ نہیں ملتا، وہ حق صرف بھائیوں کا ہوتا، شوہر کے مرجانے کے بعد اس کی نیٹی اور بھی پلیڈ ہو جاتی، میکہ ہے تعلق تو ختم تھا۔ اب اپنے شوہر کے گھر میں محض خادمہ اور نوکرانی کی پوزیشن میں رہنا ہوتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ ﷺ نے غلاموں اور عورتوں دونوں کو ان کا انسانی حق دلایا، اور ان کو اسی طرح معزز اور حقدار انسان قرار دیا جس طرح انسانوں کے دوسرے طبقات ہیں، آپ ﷺ نے صاف اعلان فرمادیا کہ دیکھو تم سب ایک انسان آدم کی اولاد ہو، تم سب برابر ہو، گورے ہوں یا کالے، عرب ہوں یا غیر عرب، کوئی کسی سے بڑا چھوٹا نہیں، ہاں نیکی اور خدا ترسی کی بنیاد پر آدمی بڑا ہو سکتا ہے، پھر آپ ﷺ نے اس پر عمل کروایا اور خود بھی کیا اور دنیا کو دکھادیا کہ انسانوں کی آپس کی مساوات کیسے ہوتی ہے، ایران کے سلمان فارسی ﷺ، افریقہ کے بلال جبشی ﷺ، روم کے صہیب رومی ﷺ، کو اپنے ساتھ اس طرح رکھا کہ جیسے اپنے افراد خاندان کو رکھتے تھے، اپنے غلام زید ﷺ بن حارثہ کو آزاد کر کے اپنے بیٹی کی طرح رکھا، حتیٰ کہ لوگ ان کو آپ کا متبینی کہنے لگے، پھر اپنی پھوپھی زاد بہن کو ان کی زوجیت میں دے کر دنیا کو حیران کر دیا، عورت کے حقوق کو ادا کرنے کا سخت حکم دیا، ان کا حقِ میراث بھی رکھا، شادی ہو جانے کے بعد بھی اس کے ماں باپ کو اس کی فکر و خیال کا حکم دیا، اور شوہر کو اپنی بیوی کا اپنی سطح کے مطابق زندگی کے وسائل مہیا کرنے کا حکم دیا، اور نباه نہ ہونے پر دونوں کی علاحدگی کا انتظام طے فرمایا، دولت کو اعتدال اور انصاف کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم دیا، بخل سے بھی منع کیا، اور اسراف سے بھی روکا، دولمندوں پر غریبوں کی مدد اور ہمدردی ضروری قرار دی بلکہ ان کی دولت میں ان کا حق مقرر کر دیا، کسی کامال ناقص لینے، کسی کی عزت کو نقصان پہنچانے، کسی کی جان کو بلاحق لینے کو حرام قرار دیا، حقِ تلفی یا بلا وجہ جان لینے پر انتقام

لینے اجازت دی، لیکن اس انتقام میں حق و انصاف سے تجاوز کرنے کو حرام قرار دیا۔ اور ان باتوں کا صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ ان پر عمل کرنے والا پورا معاشرہ تیار کیا، اور انہی اصولوں پر عمل کرنے کی عادت ڈالی کہ آپ ﷺ کے ماننے والوں کی زندگیوں میں بھی ان پر پورا عمل کرنے کے عجیب عجیب نمونے سامنے آئے کہ حضرت ابو بکر ؓ نے جب جہاد کے لیے فوج بھیجی تو حکم دیا کہ دشمن کی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والوں کو بالکل نہ چھیڑا جائے، کسی علاقہ پر فوج کشی صرف اس وقت کی جائے جب ان سے اسلامی اصولوں کے مطابق بات کرنے کے بعد معاملہ ہونے سے مایوسی ہو جائے، اور جو علاقہ فتح ہو وہاں کے باشندوں کی کسی چیز کو بغیر اس کی قیمت ادا کئے ہوئے نہ لیا جائے اور کسی کو اپنے مذہب کے چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس کے حکمران نے وہاں کی حکومت پر دکردینے کے لیے بلا یا تو آپ ﷺ جس سواری پر گئے اس پر ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا، آپ ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کا غلام تھا، آپ ﷺ نے اپنے اور اس کے درمیان باری تقسیم کر لی کہ کچھ دور آپ ﷺ بیٹھتے وہ پیدل چلتا، وہ بیٹھتا اور آپ ﷺ پیدل چلتے، اس طرح جب بیت المقدس کا شہر قریب آیا تو باری غلام کی تھی، غلام نے بہت چاہا کہ شہر میں داخل ہوتے ہوئے آپ ﷺ ہی سواری پر بیٹھیں، آپ ﷺ راضی نہیں ہوئے۔

ایرانی شہنشاہ کی جب شکست ہوئی اور اس کا ہیرے جواہرات کا تاج ایک مسلمان کے ہاتھ آیا، انہوں نے اپنے دامن میں چھپا کر لا کر اپنے امیر کے سپرد کر دیا، اور اپنا نام بھی نہیں بتایا کہ یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم و تربیت سے ایسا معاشرہ تیار کرایا جس

کا ایک ایک فرد آخرت کے ثواب کی فکر کرنے والا دنیا کی لذتوں سے بے رغبت تھا، حق پر جان دینے والا حق کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہ کرنے والا، ہر معاملہ میں پورے انصاف کے ساتھ کام کرنے والا، بے گناہ اور کمزور کی رعایت کرنے والا، خواہ وہ غیر مسلم ہو، جانوروں تک پر حمدی کرنے والا تھا، حق کی تبلیغ اور اسلام کی نشر و اشاعت میں ہمدردی اور حمدی کا روئیہ رکھنے والا، ماں باپ اعزہ پڑوں اور جس کے جو حقوق اسلامی شریعت میں بتائے گئے ان کے حقوق ادا کرنے والا تھا۔

اس طرح دنیا نے اخلاق و انسانیت اور بھائی چارگی کی فضائیا کا ایک ایسا نمونہ دیکھا جس کی نظیر اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں ملتی اس سے قبل پوری انسانیت، ظلم اور ناصافی اور لذت کوشی اور عزت و ذلت کے جھوٹے پیمانوں کے ایسے مقام پر پہنچ گئی تھی کہ اس کے بعد انسانیت خود اپنے ہاتھوں سے خود کشی کر لیتی۔

دوسری طرف دنیا نے علم میں ایسی ترقی کر لی تھی کہ طاقت اور راحت و ترقی کے وسائل ایسے حاصل کر لئے تھے کہ تمدن و تہذیب کی چمک و مکانگاہ کو خیرہ بناتی تھی ایک طرف ساسانی ایمپائر تھا دوسری طرف رومی ایمپائر تھا، اور دنیا ان کی طاقت و ترقی کو دیکھ کر ششدھر تھی لیکن انسانیت ظلم و حق تلفی سنگدلی اور لذت کوشی، اونچی پنج کے ظالمانہ طور و طریق کے نیچے سسک رہی تھی اور حکومت کرنے والوں، عیش و لذت کے متوالوں، علم وہنر کے ماہروں اور فلسفہ و حکمت اور مذہب کے پیشواؤں کو اس کا احساس نہ تھا، اور احساس تھا تو وہ اپنے کو اس کی تبدیلی سے عاجز محسوس کرتے تھے اور حالات کے ساتھ خود بھی یہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آیا اور اس نے اس گندے اور ظالمانہ مااحول کو بدل دینے کے لیے نبی کا انتخاب کیا، اس کو مکمل شریعت، مکمل ضابطہ عمل دیا، اس کو آخری نبی بنایا، اور اس کو وہ

شریعت دی جس میں دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اور علم و ہنر کے انتہائی ترقی کے آنے والے زمانوں میں زندگی کے تقاضوں کے ساتھ بھی یہ ہم آہنگ ہو سکے، اور انسانیت کے اختتام تک کام آسکے اور جس سے انسان کے بدلتے ہوئے حالات میں جو نئے تقاضے ابھریں ان کا بھی اس میں جواب ملتا رہے، اس طرح انسانیت کی زندگی کی سلامتی اور خیر کی کشتی قیامت تک آسودگی اور راحت کے ساتھ چل سکتی ہے اور وہ رحمت و نعمت و خیر و برکت جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے دائی اور ہمہ گیر طریقہ سے جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ قائم و دائم ہے کہ ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنائی کر بھیجا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً۔

---

## رسول اللہ ﷺ کی محبت و تابعداری کے اثرات

ملت اسلامیہ کا وجود اور اس کی اسلامیت کا استحکام جن خصوصیات سے  
وابستہ ہے ان میں سرفہرست دو خصوصیات ہیں، ایک خدائے واحد پر ایمان اور اسی  
کی بندگی، دوسری نبی آخرالزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ ﷺ  
کی محبت ہے، توحید کی خصوصیت تو مسلمانوں کو شرک کرنے والی قوموں اور افراد  
سے جدا کر کے ایک خدائے واحد کا پرستار اور اسی کے حکموں کا منے والا بناتی ہے،  
دوسری خصوصیت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور یہ  
عقیدہ کہ آپ ﷺ کے آخری نبی ہیں اور آپ ﷺ کا لایا ہوا دین آخری اور مکمل  
دین ہے، یہ خصوصیت تمام مسلمانوں کو ایک مضبوط اور متحد قوم بنانے والی ہے، اور  
آپسی محبت و تعلق کا رشتہ قائم کرنے والی ہے، ملت اسلامیہ کی یہ دو خصوصیات نہ  
صرف یہ کہ اس کو دوسری قوموں سے ممتاز کرتی ہیں بلکہ ان کے ذریعہ مسلمانوں میں  
ایسا اتفاق و اتحاد اور میں محبت پیدا کرتی ہیں جس کی نظیر دوسری قوموں میں نہیں ملتی،  
شرک والوں کے طریقے، عادتیں اور عمل، علاقوں علاقوں کے فرق سے علاحدہ علاحدہ  
میں گے، اس لئے کہ توحید کے عقیدہ کے علاوہ کوئی دوسری ایسی مؤثر طاقت نہیں  
ہے جو کسی قوم میں یکسانیت اور تبھی پیدا کرے اور خاتم المرسلین کے ختم رسالت و  
تکمیل دین پر عقیدہ اور ان کی محبت امت کے افراد میں جوانخت اور بھائی چارہ پیدا

کرتی ہے اور عالم اسلام کے ہر ملک کے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جس طرح جوڑ دیتی ہے اس طرح کوئی اور ذریعہ نہیں جوڑ پیدا کر سکتا ہے۔

چنانچہ مسلمانوں میں رنگ و نسل، زبان و ثقافت، ملکی اور وطنی حالات کے ہر طرح کے فرق کے باوجود اخوت و تعلق کی ایسی فضابن جاتی ہے کہ دوسروں کے لئے بڑی حیرت کا باعث بنتی ہے، لیکن مسلمانوں کی یہ دونوں بنیادی صفتیں ان کو مکمل سطح سے اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب وہ توحید کے پنجتہ عقیدے کے ساتھ محبت و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کار بند ہوں، محبت رسول ﷺ اس کا بڑا ذریعہ رہا ہے اور حدیث شریف میں اس کا بہت تاکید ذکر آیا ہے کہ ”تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن (حقیقی مسلمان) نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اتنا محبوب نہ ہو جاؤں جتنا نہ اس کے والد، نہ اس کا بیٹا اور نہ دنیا کا کوئی دوسرا شخص ہو،“ یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان کی محبت اپنے باپ بیٹے اور ہر ایک انسان کی محبت سے زیادہ ہو، یہ ہے وہ درجہ جو حقیقی مسلمان کا بتایا گیا ہے۔

مسلمان کو جب اپنے رسول آخر الزماں ﷺ سے ایسی بڑی اور گہری محبت ہوتی ہے تو اس کو آپ کے بتائے ہوئے عقیدے کے علاوہ کوئی دوسری عقیدہ قبول ہوتا ہے اور نہ کوئی ایسا رسم و رواج یا عمل (جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو یا ناپسند کیا ہو) اس کو قبول ہوتا ہے، اور جب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی سب سے زیادہ محبت ہوگی تو اس کا دین خالص اور اس کے اثرات اور اطاعت مکمل ہوگی، اور یہی وہ اثر و طاقت ہے جو زمانے کے ساتھ کم ہونے کے باوجود آج تک مسلمان کے دین کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ دنیا کے دیگر مذاہب خواہ آسمانی ہوں یا زمینی، سب زمانہ کے اثر سے اپنی اصلی حالت سے بہت دور ہو چکے ہیں لیکن اسلام آج بھی اپنی صحیح شکل میں باقی ہے، اس کی دینی شکل وہی ہے جو اس کے نبی

آخر الزمان ﷺ نے آج سے چودہ سو سال قبل بتائی اور سکھائی تھی، اس میں اصل وجہ خداۓ واحد پر ایمان اور عقیدۂ رسالت ہے جو اسلام کو اپنی جگہ سے بٹنے نہیں دیتا اور اس میں ہماری دشگیری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تابعداری کا تعلق و محبت اور ان کے اقوال و احکام پر عمل یا عمل کی خواہش کرتی ہے۔ ہم کو جب بھی کسی مذہبی معاملہ میں یا کسی دوسرے مذہب کو دیکھ کر کسی معاملہ میں اشتباہ ہوتا ہے یا قابل دریافت بات محسوس ہوتی ہے تو ہم خداۓ واحد کی بھتیجی ہوئی کتاب قرآن مجید کو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، سب سے پہلے دیکھتے ہیں اور جو انہوں نے فرمایا اور بتایا اور خود کر کے دکھایا اور جوان کے صحابہ ﷺ نے ان کی طرف سے بتایا یا ان کی بات پیش کی اس کو دیکھتے ہیں اور وہاں سے جواب حاصل کرتے ہیں، بلکہ آپ ﷺ کی تابعداری کے جذبے سے اس کو لیتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

چنانچہ ہم اس طریقے سے بھٹکنے سے بچ جاتے ہیں اور صراط مستقیم پر گامزن رہتے ہیں، لیکن یہ تابعداری اور صراط مستقیم کی یہ طلب اور دین حق کی یہ فکر اسی وقت پوری طرح کام کرتی ہے جب ہم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تابعداری کا تعلق ہوا اور یہ احساس ہو کہ قیامت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھیں گے تو دین حق کی فکر اور اتباع شریعت اور سنت نبوی پر عمل کے سلسلہ میں ہم نے دنیاوی زندگی میں کیا کیا اس کو دیکھ کر ہمارے رویہ اور طرز سے خوش ہو کر ہم کو اچھی نظر دوں سے دیکھیں گے یا ہماری بد عملی کو دیکھ کر منہ پھیر لیں گے اور کہیں گے کہ اے پرو دگار یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں، انہوں نے ہمارے طریقہ کو نہیں اختیار کیا تھا، ان کو دنیا کے دوسرے لوگوں اور چیزوں سے محبت زیادہ تھی، لیکن مسلمان کو جب واقعی اپنے نبی ﷺ سے محبت ہو گی تو وہ محبت اس کو اس کے نبی ﷺ کے حکم اور اس کی لائی ہوئی شریعت اور دین سے ہٹ کر کوئی کام کرنے میں آڑے آجائے گی اور توجہ دلائے گی

کہ اے محبت رسول ﷺ قیامت کو، اپنے نبی ﷺ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اور تمہارے خدا کے حضور میں تمہارے نبی ﷺ کو کیا کہہ کر پیش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کا یہ احساس اس کے درمیان اور خدا اور رسول ﷺ کی نافرمانی کے درمیان ایک پشتہ بن کر آ جاتا ہے جو اس کو غلط اور نافرمانی کے کام سے روک دیتا ہے۔

ضرورت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہا کریں کہ ہمارے تعلق کی مختلف پسندیدہ شخصیتوں اور ہماری زندگی کی مختلف پسندیدہ چیزوں سے ہماری محبت ہمارے حضور ﷺ کے ساتھ ہمارے تعلق و محبت سے بڑھی ہوئی تو نہیں ہے، کہ وہ ہم کو اس طریقہ زندگی سے ہٹا دے جو ہم کو ہمارے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور قیامت کے روز ہم کو ان کے سامنے شرمندہ اور پروردگار عالم کے سامنے ہم کو مجرم بنَا کر کھرا کر دے۔

ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت آخرت میں کامیابی دلانے کے ساتھ اس دنیاوی زندگی میں مسلمانوں کے درمیان بھی تعلق و محبت استوار کرنے والی ہے اور اس کا اثر پوری تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کے اثر سے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کی فضا قائم ہوئی اور قائم ہے اس کے باوجود کالے گورے کے فرق کے اور رسول آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین و شریعت کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کا تعلق مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے والی ایک زبردست طاقت ہے جو اس کو برا بیوں اور گمراہیوں سے بچانے والا ایک بڑا ذریعہ بن جاتی ہے، یہ ایک عظیم نعمت ہے بلکہ ملکتِ اسلامیہ کی متاری زندگی ہے، اس کی حفاظت کی برابر فکر کرنا لازمی ہے لیکن اس کے لئے حضور صلی اللہ

علیہ وسلم سے اپنا تعلق بڑھانا اور آپ ﷺ کی بتائی ہوئی زندگی کو اپنانے کی فکر کرنا ہوگا، آپ ﷺ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اور آپ ﷺ کی حیات طیبہ کے حالات اور کیفیات کو جاننا ہوگا اور آپ ﷺ نے خدائے واحد پر ایمان لانے اور اس کے حکموں کو ماننے اور اسی کی بندگی کرنے کے لئے جو ہدایات دی ہیں ان پر کار بند ہونا ہوگا، اور آپ ﷺ نے اس کے لئے جو تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتوں جھیلیں اور قرباتیاں دیں ان کو دیکھنا ہوگا اور ان سے روشنی حاصل کرنا ہوگا، تاکہ ہم آخرت میں اپنی کامیابی اور سرخروئی کا سامان کر سکیں اور اپنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت (حساب وکتاب) کے دن آپ ﷺ کے امتی کی حیثیت سے پیش کر سکیں۔ ہر ماہ ربيع الاول کی یہ تاریخیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے لائے ہوئے طریقہ زندگی کو اپنانے کی طلب پیدا کرتی ہیں، باقی رہے، کمزور نہ ہو، تم اس کو بھول نہ جاؤ اور اس کی صفت و خصوصیت کو باقی رکھنے سے غفلت نہ برتو، یہی پیغام ہم کو اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ملتا ہے اور یہی پیغام سیرت کے جلسوں سے ملتا ہے اور یہی پیغام ہم کو سیرت کی کتابوں اور آپ ﷺ کی حدیثوں سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جادہ حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا انحصار خدائے واحد کی بندگی اور اس کے آخری رسول ﷺ کی تابعداری اور اس کی محبت پر ہے۔

---

## انسانیت کی عید

ربيع الاول کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس سے انسانیت کی باد بہاری چلی، اس کی آمد انسان کے شرف و اعزاز اور انسانیت کے عز و افتخار کی یاد دلاتی ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانیت اپنا یہ عز و افتخار کھو چکی تھی، جسے بعثت نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دوبارہ بحال کیا، انسانیت کی گراوٹ کی تصویر کشی اس حدیث سے بخوبی ہوتی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے اہل زمین پر نظر ڈالی تو ان کو ناپسند کیا، عرب کو بھی عجم کو بھی سوائے اہل کتاب میں سے کچھ بچے چھپ لے گوں کے۔“

اور اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر فضل و کرم ہے کہ جب انسانیت فساد اور بگاڑ کی آخری حد کو پہنچ گئی تھی، اور عز و شرف سے بہت دور جا چکی تھی، اور انسانیت پستی و ادبار کی تہہ میں جانوروں کی سی زندگی گزار رہا تھا، اور وہ ایسا درندہ بن چکا تھا کہ وہ دبے کچے انسانوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتا تھا جو بڑے جانور چھوٹے جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں اپنے مفاد کے حصول کے لئے دوسروں کو قربان کر دیتا، کام لیتے وقت بیل کی طرح جوتا لیکن مزدوری نہ دیتا، اگر دیتا بھی تو بہت معمولی جونہ کے برابر ہوتی، ذرا سی ناراضگی پر ریگستان و صحراء کی نذر کر دیتا، مخالفوں کو جنگلوں میں

جانوروں کی غذا بننے کے لئے بھج دیتا، انسان کا انسان کے ساتھ سلوک اس سے سخت اور ناقابل بیان ہو چلا تھا جو ایک سنگدل انسان بے زبان جانوروں کے ساتھ کرتا ہے، اس سے زیادہ سنگدلی اور بے رحمی کی بات اور کیا ہو گی کی ملوک و امراء جو خود کو اعلیٰ درجہ کا انسان سمجھتے تھے قیدیوں میں جنہیں وہ سزاۓ موت کا مستحق سمجھتے اپنی اعلیٰ دعوتوں اور کھانے کی محفلوں میں بلا تے اور انہیں آگ کا الاڈ بنا کر اپنے معزز مہمانوں کی ضیافت کرتے کہ اس کی روشنی میں وہ کھانا تناول کریں، ان کے نزدیک اس کی تکلیف اور اس کے جل کر راکھ ہونے سے مہمان کی ضیافت دو بالا ہو جاتی تھی، اور ایک اچھا سامان تفریح ہو جاتا تھا۔

عورت کی حقیقت کھلونے کی اور آلات طرب و عیش کی تھی، بے چوں و چڑا خدمت لی جاتی اس کو خوب استعمال کیا جاتا، حیا و عفت اور آبرو کا کوئی لحاظ دونوں جانب نہ تھا، اور یہ سب کچھ اس وقت تھا جب وہ زندہ درگور ہونے سے بچ جاتی۔

حصول مال و زر میں ہر وہ طریقہ اختیار کرنا صحیح سمجھا جاتا تھا جس سے مال میں نہ ہو، خوشی کی کوئی پرواہ نہ کی جاتی تھی، سود، رشوت، غصب، ڈاکہ ڈالنا، چوری، خیانت جس کے بس میں جو ہوتا وہ کرتا۔

دینی و مذہبی حالت نہایت ابتر تھی، اوہاں وتصورات اور خرافات میں لوگ زندگی گزار رہے تھے، غلط سلط عقیدے گڑھ رکھے تھے، سورج چاند، ستاروں، ججر و شجر، دریا، جانور تھی کہ کیڑے مکوڑوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ رسان اور ضرر رسان ہیں اس کے لئے ان کے ضرر پہنچنے سے بچنے کے لئے ان کی عبادت ضروری ہے آسمانی مذاہب کے ماننے والے بھی جادہ حق سے ہٹ گئے تھے، نصاریٰ نے ایک معبود برحق کو تین حصوں میں تقسیم کر کے اس کے اختیار و قدرت کو بانٹ دیا تھا، کہ اللہ واحد کو تسلیم کرنے کے لئے روح القدس اور بیٹے کو بھی

جوڑنا ضروری سمجھا، اور یہود نے اپنی نسل کے بعض نبیوں کو الوہیت کا درجہ دے کر اپنے کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا، اور کہا ”نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَجِبَاءُهُ“ اور اپنے کو عام انسانوں سے بالاتر طبقہ قرار دے کر دوسرے تمام انسانوں کو جانوروں کی جگہ رکھا، اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات رچ بس گئی تھی کہ ہماری موجودگی میں کسی دوسرے کی عزت و ناموس کوئی چیز نہیں ہے اور کسی دوسرے کو دنیا سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔

ان حالات میں خاتم الرسل سیدنا محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی آپ ﷺ نے ان غلط عقائد و خیالات کی پُر زور لفگی کی اور بہیانہ و وحشیانہ زندگی کی زبردست مخالفت کی اور ظلم و فساد کو ختم کیا، اور انسان کو اس کی پستی سے اٹھایا، ندائے حق بلند کی، اور پھر اس کے نفاذ کے لئے کھڑے ہوئے، کچھ نے شروع ہی میں ساتھ دیا، کچھ شدید مخالفت پر آمادہ ہوئے، اور انہوں نے آپ ﷺ پر اور آپ ﷺ کے جانب اصحاب پر جان لیا مظالم کئے، لیکن آپ ﷺ نے اور آپ ﷺ کے اصحاب نے یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں سہا، جسے اور ڈھنے رہے، دعوت و تبلیغ کرتے رہے، کہ حق سر بلند ہوا اور باطل سرنگوں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بگاڑ اور فساد کو ختم کرنے، اور ضلالات و انحراف کو دور کرنے کے لئے جہد سلسل سے کام لیا اور انسان کو بتایا کہ وہ اپنے رب کی کس طرح بندگی کرے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح سلوک کرے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہے، رشتے داروں اور دوستوں، تعلق والوں کے ساتھ کس طرح بر تاؤ کرے، چھوٹوں اور ماتحتوں کے ساتھ کس رحم دلی اور شفقت و محبت سے پیش آئے، بڑوں اور اپنے ذمہ داروں کا کیسا لحاظ و خیال کرے، اور یہ تعلیم دی کہ بنی نوع انسان میں کوئی کسی سے برتر نہیں ہے سارے انسان برابر ہیں، سب آدمی ہیں، اور آدم مشی

سے بنے ہیں، عرب ہوں یا جنم نہ عربی کی بھجی پر نہ بھجی کی عربی پر کوئی فضیلت و ترجیح ہے، اور نہ گوروں کی کالوں پر اور نہ کالوں کی گوروں پر، ہاں اگر ہے تو صرف تقویٰ (وطہارت) کی بنیاد پر ہے، اور یہ بتایا کہ وہ اشرف المخلوقات ہے لیکن دوسری مخلوق کے ساتھ بھی اس کا معاملہ شفقت و نرمی کا اور نفع رسانی کا ہونا چاہئے، "ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء" (ابوداؤد) آپ ﷺ کا لازوال ارشاد و تعلیم ہے، اور یہ کہ "الخلق كلهم عيال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله" (طبرانی) ساری مخلوق اللہ کے زیر پرورش ہے اللہ کی مخلوقات میں اللہ کو سب سے پسندیدو وہ ہے جس کا رویہ اس کے زیر پرورش مخلوق کے ساتھ اچھا ہو۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد مسلسل و سعی پیغمبر تقریباً نصف صدی جاری رہی یہاں تک کہ آپ ﷺ نے ایک ایسا مثالی انسانی معاشرہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ جیسا روزے زمین پر کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، اس معاشرہ کا ہر فرد عقیدہ عمل میں اپنی مثال آپ تھا، یہ ممتاز انسانی معاشرہ صلاح و ہدایت کا حامل معاشرہ تھا، اس معاشرہ کے افراد انسانی فضائل کے داعی و ناشر تھے اور ہر معاشرہ کو اخلاقی زوال سے صاف کرنے کی اعلیٰ صلاحیت رکھنے والے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اس کے مرتبہ عالی پر دوبارہ فائز کیا، اس کو اس کے عز و شرف کی چوٹی پر پہنچایا، امن و سلامتی کی ڈگر پر کھڑا کیا، صفائی و پاکیزگی عطا کی، سیرت و سلوک اور اخلاق و صفات میں جمال و کمال سے آراستہ کیا، اور اس طرح کیا کہ زبانِ خلق کہہ اٹھی کہ انسانیت کی صحیح صادق طلوع ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری روائی دوائی قافلہ انسانیت کے لئے منارہ نور ہی کہ جس کی روشنی میں انسانی قافلہ چلتا رہے گا، اور آپ ﷺ کی بعثت

سے انسانیت گونشأۃ ثانیہ ملی اور پھر آپ ﷺ کی ختم نبوت نے اس کو بقاء و دوام بخشنا، ماہ ربیع (بہار) میں آپ ﷺ کی ولادت با سعادت ہوئی، اور یہی ہجرت کا مہینہ بھی ہے کہ جس کے بعد اعلیٰ ترین انسانی اقدار کے مطابق مثالی معاشرہ تشکیل پایا، اور پھر اسی ماہ مبارک میں آپ ﷺ نے اپنا کام مکمل فرمائروفات پائی، اور مثالی انسانی معاشرہ کی تکمیل کی تکمیل ہوئی، اس طرح یہ مہینہ اپنے ساتھ ایک پیغام رکھتا ہے، اس ماہ بہار (شهر الربيع) نے پوری دنیا میں انسانیت کی باد بہاری چلائی، ہر سال یہ ہمارے سامنے باد بہاری کے جھونکے لے کر آتا ہے، اور ہمارے سامنے کچھ تقاضے اور ذمہ داریاں رکھتا ہے، عربی شاعر نے بہت خوب کہا ہے۔

ولد الهدی فالکائنات ضیاء

وفم الزمان تبسم و ثناء

”ہدایت کا آفتاب طلوع ہوا اور اپنی ضیا پاش کرنوں سے وجود کائنات کو منور کیا اور زمانے کی زبان خوشی اور حمد و ثناء کے نغمے گانے لگی۔“

وصلى الله على خير خلقه وخاتم رسلي محمد ن

المصطفى وعلی الله وصحبه أجمعين (۱)

— ۳۰۰ —

يَسْمِلُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ  
 إِلَّا هُوَ صَانِعُ الْجَنَاحَيْتَ  
 وَعَلَى إِلَّا مُحَمَّدٌ كَمَا أَصْلَيْتَ  
 عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى إِلَّا إِبْرَاهِيمَ  
 إِنَّكَ حَمِيدٌ فَخِيلُهُ  
 إِلَّا هُوَ بَارِكٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
 إِلَّا مُحَمَّدٌ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى  
 إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى إِلَّا إِبْرَاهِيمَ  
 إِنَّكَ حَمِيدٌ فَخِيلُهُ